

(Translation)

THE HYDERABAD STAMP
ACT.

No. IV of 1331 Fasli.

Section.

Preamble.

CHAPTER I.

PRELIMINARY.

1. Short title, commencement, extent
and repeal.

2. Definitions.

Banker.

Bill of exchange.

Bill of exchange payable on
demand.

مقالون

ایسٹامپ ایکٹ ۱۳۳۱ء

نشان (۴) ۱۳۳۱ء

دفعہ

مہتید -

باب اول

مراستب ابتدائی

مختصر نام و تاریخ نفاذ و دست مقامی و نسخہ -

۲ - تعریفات -

مہاجن -

بل آف آکس بیچ

عقد اطلب واجب الادا بل آف آکس بیچ -

Bond.

تمک -

Chargeable.

واجب الاخذ -

Cheque.

چک -

Chief controlling stamp
authority.

حاکم اعلیٰ انگریزی صیغہ اسٹامپ -

Taluqdar.

تعلقدار -

Conveyance.

بیعنامہ

Duly stamped.

باضابطہ اسٹامپ شدہ -

Executed and Execution.

تکمیل شدہ و تکمیل -

Impressed stamp.

منقش اسٹامپ -

Instrument.

دستاویز -

Instrument of partition.

تقسیم نامہ -

Lease.

دستاویز اجارہ -

Mortgage-deed.

زین نامہ -

Power of attorney.

مختار نامہ -

Promissory note.

پرومیسری نوٹ -

Receipt.

رسید -

Settlement.

تملیک نامہ -

CHAPTER II.

باب دوم

STAMP DUTIES.

رسوم اسٹامپ -

A—Instrument chargeable with
stamp duty.

(الف) دستاویزات جن پر رسوم اسٹامپ

واجب الاخذ ہے -

3. Instruments chargeable with stamp duty and amount thereof.
 4. Where several instruments are executed in single transaction of sale, mortgage, or settlement.
 5. Stamp duty when instrument comprises certain matters.
 6. Duty when instrument comes under two or more items in Schedule.
 7. Power of Government to reduce or remit duties.
- B—Stamp and mode of its use.*
8. Mode of paying stamp duties.
 9. Instruments on which adhesive stamp may be affixed.
 10. Cancellation of adhesive stamps.
 11. Manner of writing instrument on impressed stamps.
 12. Where any instrument has been written on stamp, no second instrument shall be written thereon.
 13. Effect of contravention of provisions of sections 11 and 12.

- قانون اسٹامپ - نشان دہی، ۱۹۳۱ء
- ۳ - کن دستاویزات پر رسوم اسٹامپ واجب الاخذ ہے اور کس قدر -
 - ۴ - جب بیع رہن یا تملیک کی ایک ہی کارروائی میں متعدد دستاویزات تکمیل کی جائیں -
 - ۵ - رسوم اسٹامپ جب دستاویز چھند مطالب پر حاوی ہو -
 - ۶ - رسوم جب دستاویز شہیمہ کی دو یا زیادہ مدات میں داخل ہو -
 - ۷ - سرکار عالی کا اختیار نسبت تخفیف یا معافی رسوم -
 - (ب) اسٹامپ اور اس کا طریقہ استعمال -
 - ۸ - رسوم اسٹامپ ادا کرنے کا طریقہ -
 - ۹ - کن دستاویزات پر اسٹامپ چسپائی کی جاسکتی ہے -
 - ۱۰ - اسٹامپ چسپائی کا قلمزور کیا جاتا -
 - ۱۱ - اسٹامپ منقش پر دستاویز لکھنے کا طریقہ -
 - ۱۲ - جب کسی اسٹامپ پر کوئی دستاویز لکھی جا چکی ہو تو اس پر کوئی دوسری دستاویز نہ لکھی جائے گی -
 - ۱۳ - خلاف ورزی احکام دفعہ ۱۱ اور ۱۲ کا اثر -

14. Payment of duty when to be denoted by Taluqdar.

C—The time of stamping instruments.

15. Instruments executed within H.E.H. the Nizam's Dominions.

16. Instruments other than bills of exchange, and promissory notes executed out of H. E. H. the Nizam's Dominions.

17. Bills of exchange and promissory notes made out of H. E. H. the Nizam's Dominions.

D—Valuation of charging duty.

18. Foreign currency to be valued at market rate.

19. Mode for valuing stocks or other negotiable securities.

20. Effect of statement of rate of exchange or average market-price in instrument.

21. Instruments by which interest is payable.

22. Duty on conveyance when consideration thereof is debt; or when it contains promise to advance money in future.

تانون اسٹامپ - نشان (۴) ۱۳۳۱ء

۱۴ - تعلقدار ادا کی رسوم کی کیفیت کب تحریر کرے گا۔

(ج) - دستاویزات پر اسٹامپ لگانے کا وقت۔

۱۵ - جب دستاویزات ممالک محروسہ سرکار عالی کے اندر تکمیل کی جائیں۔

۱۶ - بل آف اکسچینج - چیک اور پریامیسری نوٹ

کے سوائے دوسری دستاویزات جو بیرون ممالک محروسہ تکمیل کی جائیں۔

۱۷ - بل آف اکسچینج چیک اور پریامیسری نوٹ

جن کی تکمیل بیرون ممالک محروسہ ہوئی ہو۔

(د) - تعیین مالیت بغرض اخذ رسوم۔

۱۸ - ملک غیر کے سکہ کا تعیین مالیت بموجب

شرح بازار ہوگا۔

۱۹ - اسٹاک یا دیگر کفالت نامہ جات قابل

بیع و شری کے تعیین مالیت کا قاعدہ۔

۲۰ - دستاویز میں شرح بٹاون یا اوسط قیمت

بازار کے اندراج کا اثر۔

۲۱ - دستاویزات جن میں سود واجب لاوا ہو۔

۲۲ - دستاویز انتقال پر رسوم جب اس کا بدلہ خر

ہو یا اس میں آئندہ قرضہ دینے کا وعدہ ہو۔

23. Valuation in case of annuity etc.
24. Stamp duty where value of subject matter of instrument is indeterminate.
25. Facts affecting stamp duty to be set forth in instrument.
26. Directions as to payment of duty on certain kinds of conveyance.

E—Duties by whom payable.

27. Duties by whom payable.
28. Obligation to give receipt in certain cases.

CHAPTER III.

DETERMINATION OF STAMP DUTIES.

29. Determination of stamp duties.
30. Certificate by Taluqdar.

CHAPTER IV.

INSTRUMENTS NOT DULY STAMPED.

31. Examination and impounding of instruments.

قانون اسٹامپ - نشان (۴) اسٹامپ

۲۳ - سالیانہ وغیرہ کی صورت میں تعیین مالیت -

۲۴ - رسوم اسٹامپ جب شے مندرجہ دستاویز

کی مالیت غیر معین ہو -

۲۵ - واقعات جو رسوم اسٹامپ پر موثر ہوں

ان کی صراحت دستاویز میں کی جانی چاہئے -

۲۶ - بعض قسم کی دستاویزات انتقال پر رسوم کی

ادائیگی کے متعلق ہدایات -

(۵) - رسوم کس کے ذمہ واجب الادا ہے -

۲۷ - رسوم کس کے ذمہ واجب الادا ہے -

۲۸ - بعض صورتوں میں رسید دینے کی ذمہ داری -

باب سوم

تشخیص اسٹامپ -

۲۹ - تشخیص اسٹامپ

۳۰ - تعلقہ دار کا صداقت نامہ -

باب چہارم

دستاویز جو ضبط اسٹامپ شدہ نہ ہوں -

۳۱ - دستاویزات کا معائنہ اور ان کی ضبطی -

Stamp [1331 F : HYD. ACT IV
(Translation)

32. Special provision as to unstamped receipt.

33. Instruments not duly stamped inadmissible in evidence.

34. Instrument admitted not to be questioned.

35. Admission of instruments bearing stamp of description different from that prescribed therefor.

36. Instruments impounded, how dealt with.

37. Taluqdar's power to refund penalty recovered under section 36, sub-section (1).

تانون اسٹامپ۔ نشان (۲)، ۱۳۳۱ء

۳۲۔ غیر اسٹامپ شدہ رسید کے متعلق خاص حکم۔

۳۳۔ دستاویزات جو حسب ضابطہ اسٹامپ

شدہ نہ ہوں وہ ناقابل ادخال شہادت

ہیں۔ علاقہ جات یا نگاہ وغیرہ میں

تفاوت کا شکل اسٹامپ ادا ہونا۔

۳۴۔ جب دستاویز قبول کر لی جائے تو

اس کے متعلق اعتراض نہ کیا جاسکے گا۔

۳۵۔ ان دستاویزات کا قبول کیا جانا جن

پر اسٹامپ اس سے مختلف قسم کا ثبت

ہو جو ان کے لئے معین کیا گیا ہو۔

۳۶۔ جو دستاویزات ضبط کئے جائیں ان

کے متعلق کس طرح عمل کیا جائے گا۔

۳۷۔ تعلقدار کا اختیار نسبت واپسی زر تاوان

جو حسب دفعہ ۳۶ ضمن (۱) وصول ہوا ہو۔

38. Taluqdar's powers to stamp instruments impounded.

قانون اسٹامپ - نشان (۴) سیکشن ۳۸
۳۸ - تعلقدار کا اختیار ان دستاویزات پر
اسٹامپ ثبت کرنے سے متعلق جو ضبط کی گئی
ہوں -

39. Instruments unduly stamped by accident.

۳۹ - دستاویزات جو سوراخ اتفاق سے بے ضابطہ
اسٹامپ شدہ ہوں -

40. Endorsement on instruments on which duty has been taken under section 33, 38 or 39.

۴۰ - ان دستاویزات پر عبارت تلہری جن
کے متعلق رسوم حسب دفعہ ۳۳ یا ۳۸-۳۹
لی گئی ہو -

41. Prosecution for contravention of Stamp Act.

۴۱ - قانون اسٹامپ کی خلاف ورزی کی
بابت استغاثہ -

42. When persons paying duty or penalty may recover same from other persons.

۴۲ - جو اشخاص رسوم یا تاوان ادا کریں وہ
اس کو دوسرے اشخاص سے کب وصول
کر سکیں گے -

43. Power of Chief Controlling Stamp authority to refund excess duty and penalty.

۴۳ - حاکم اعلیٰ انگریزی اسٹامپ کا اختیار
رسوم اور تاوان کی واپسی کے متعلق -

44. Non-liability for loss of instruments sent under section 37.

۴۴ - دستاویزات جو حسب دفعہ ۳۷ بھیجی
گئی ہوں ان کے گم ہو جانے کی وجہ سے
کوئی ذمہ داری نہ ہوگی -

46. Mode of recovery of duties and penalty.

45. Power of payer to stamp bills and promissory notes received by him unstamped.

CHAPTER V.

ALLOWANCE FOR STAMPS IN CERTAIN CASES.

47. Allowance for spoiled stamps.
48. Application under section 47 when to be made.
49. Refund of value of stamp without limit of time.
50. Allowance in case stamp has been misused.
51. Allowance for spoiled or misused stamp.
52. Allowance for stamps not required for use.

۴۶ - رسوم اور تاوان کی وصولی یا جی کا طریقہ۔

باب پنجم

رعایت نسبت اسٹامپ کے بعض صورتوں میں

۴۷ - خراب شدہ اسٹامپ کی نسبت رعایت

۴۸ - دفعہ ۴۷ کی رو سے درخواست کب

پیش ہو سکے گی۔

۴۹ - واپسی قیمت اسٹامپ بلا قید مدت۔

۵۰ - اس صورت میں رعایت جب اسٹامپ

بے جا طور پر استعمال ہوا ہو۔

۵۱ - خراب شدہ یا بجا استعمال شدہ

اسٹامپ کے متعلق رعایت۔

۵۲ - ایسے اسٹامپ کے متعلق رعایت جن کی

استعمال کے لئے ضرورت نہ رہی ہو۔

53. Allowance in case of renewal of certain debentures.

CHAPTER VI.

REFERENCE AND REVISION.

54. Control of and reference to Chief Controlling Stamp authority.
55. Chief Controlling Stamp authority may make reference to High Court.
56. High Court may call for further statement of case.
57. Procedure in disposing of case.
58. Courts may draw statement of case and send for decision to High Court.
59. Revision of certain decisions regarding sufficiency of stamps.

CHAPTER VII.

OFFENCES AND PROCEDURE.

60. Penalty for executing instruments not stamped.

قانون اسٹامپ - نشان (۲)، ۱۳۳۱ء
۵۳ - بعض ڈیبنچر کی تجدید کی صورت میں عانت

باب ششم

استصواب و نگرانی۔

- ۵۴ - حاکم اعلیٰ نگرانی صیفہ اسٹامپ کی نگرانی اور اس سے استصواب -
- ۵۵ - حاکم اعلیٰ نگرانی صیفہ اسٹامپ چھٹیں عالیہ عدالت سے استصواب کر سکے گا -
- ۵۶ - مجلس عالیہ عدالت مقدمہ کی مزید کیفیت طلب کر سکے گی -

- ۵۷ - مقدمہ کا فیصلہ کرنے میں ضابطہ -
- ۵۸ - عدالتیں مقدمہ کی کیفیت لکھ کر مجلس عالیہ عدالت کے فیصلہ کیلئے بھیج سکیں گی -

- ۵۹ - رسوم کافی ہونے کے متعلق فیصلہ جات کی بعض صورتوں میں نگرانی -

باب ہفتم

جرام اور ضابطہ کارروائی۔

- ۶۰ - غیر اسٹامپ شدہ دستاویزات کی تکمیل کے

61. Penalty for not cancelling or obliterating adhesive stamp.
62. Penalty for not complying with provisions of section 25.
63. Penalty for refusal to give receipt or for device to evade duty on receipt.
64. Penalty when bill is post dated or other devices are adopted to cause loss of stamp to Government.
65. Penalty for breach of rules relating to vendor of stamp.
66. Permission to institute prosecution.
67. Magistrate who shall have jurisdiction.
68. Place of trial.

بابت سزا۔

۶۱۔ اسٹامپ جیسا نیدنی کو قلمزد اور بے کار

نہ کرنے کی بابت سزا۔

۶۲۔ دفعہ ۲۵ کے احکام کی تعمیل نہ کرنے کی

عدالت میں سزا۔

۶۳۔ رسید دینے سے انکار کرنے یا رسید سے

رسوم بچانے کی تدابیر کرنے کی بابت سزا۔

64. Penalty when bill is post dated or other devices are adopted to cause loss of stamp to Government.

۶۴۔ سزا جب سرکار عالی کو اسٹامپ کا

نقصان پہنچانے کے لئے بل میں تاریخ

مابعد لکھی جائے یا اور تدابیر اختیار

کی جائیں۔

65. Penalty for breach of rules relating to vendor of stamp.

۶۵۔ قواعد متعلق اسٹامپ فروش کی خلاف ورزی

کی بابت سزا۔

66. Permission to institute prosecution.

۶۶۔ اجازت ارجاع نالاش۔

67. Magistrate who shall have jurisdiction.

۶۷۔ کس ناظم کو اختیارات حاصل ہوں گے۔

68. Place of trial.

۶۸۔ مقام تحقیقات۔

(Translation)

CHAPTER VIII.

MISCELLANEOUS PROVISIONS.

69. Inspection of registers, etc.
70. Power to make rules for sale of stamps.
71. Power to make rules generally for purposes of Act.
72. Publication of rules.
73. This Act not to affect enactment relating to court fees.
74. Omitted.

SCHEDULE.

Stamp Duty on Instruments.

تانون اسٹامپ۔ نشان (۴۳) ۱۳۳۱ء

باب ششم

متفرق احکام۔

- ۶۹۔ رجسٹرات وغیرہ کا معائنہ۔
- ۷۰۔ اسٹامپ فروخت کرنے کے لئے قواعد مرتب کرنے کا اختیار۔
- ۷۱۔ قانون کی اغراض کے لئے بالعموم قواعد وضع کرنے کا اختیار۔
- ۷۲۔ قواعد کی اشاعت۔
- ۷۳۔ یہ قانون اور رسوم عدالت پر موثر نہ ہوگا۔

۷۴۔ اسٹامپ جو جاگیرات میں استعمال ہوگا۔ حذف۔

ضمیمہ :- دستاویزات پر رسوم اسٹامپ۔

(Translation)

(2) The Stamp Act of 1298 F. shall be repealed as from the commencement of this Act.

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context, —

(1) "banker" includes a bank and any person doing banking business;

(2) "bill of exchange" means a bill of exchange as defined in the Hyderabad Negotiable Instruments Act No. V of 1318 Fasli, and includes also a hundi, and any other document, entitling or purporting to entitle any person, whether named therein or not, to receive from any other person or to order payment of any sum of money;

تانون اسٹامپ - نشان (۲)، ۱۲۹۸ء
 "تانون اسٹامپ ممالک محروسہ سرکار عالی"
 موسوم ہو سکے گا اور یکم خورداد ۱۳۲۲ء سے
 کل ممالک محروسہ سرکار عالی میں نافذ ہوگا۔

(۲) تاریخ نفاذ قانون ہذا سے قانون
 اسٹامپ مصدرہ ۱۲۹۸ء منسوخ ہوگا۔

تعریفات - | دفعہ ۲ - قانون ہذا
 میں بجز اس کے کہ مضمون یا سیاق عبارت
 اس کے خلاف ہو۔

مہاجن - | (۱) - "مہاجن" میں بینک
 اور ہر ایسا شخص داخل ہے جو مہاجن کا رویا
 کرتا ہو۔

بل آف ایکسچینج - | (۲) - "بل آف ایکسچینج"
 سے ایسا بل آف آف ایکسچینج مراد ہے جس کی
 تعریف قانون دستاویزات قابل بیع و شری
 ممالک محروسہ سرکار عالی نشان (۵)، ۱۳۱۸ء
 میں کی گئی ہے اور اس میں ہنڈی اور نیرا سی
 دوسری دستاویزات داخل ہے جس کی رو سے کوئی
 شخص خواہ اس کا نام اس دستاویز میں درج ہو

(Translation)

(3) "bill of exchange payable on demand" includes —
Bill of exchange payable on demand:

(a) an order for the payment of any specified sum of money by a bill of exchange or promissory note, or for the delivery of any bill of exchange or promissory note in satisfaction of any specified sum of money, or for the payment of any fixed sum of money out of any particular fund which may or may not be available for payment or upon any condition or contingency which may or may not be fulfilled or happen;

(b) an order for the payment of any sum of money weekly, monthly or at a specified period;

(c) a letter of credit, that is to say, any recommendatory note by which one person authorises another to give money on credit to a third person in whose favour it is drawn;

تائون اسٹامپ - نشان (۴) ۱۳۳۱ ف
یا نہ ہو کوئی رقم کسی دوسرے شخص سے وصول کرنے
یا کسی دوسرے شخص کو ادا کے لئے حکم دینے کا مستحق
ہونا ظاہر ہوتا ہو۔

عند الطلب واجب الادا (۳) - عند الطلب
بل آف ایکسچینج - واجب الادا بل آف
ایکسچینج میں داخل ہے۔

(الف) - بل آف ایکسچینج یا پرائمیسری
نوٹ کے ذریعہ سے کسی معین رقم کے ادا کرنے
کا یا کسی معین رقم کی بے باقی کے لئے کسی بل
آف آکسچینج یا پرائمیسری نوٹ کی حوالگی کا حکم
یا کسی معین رقم کے کسی خاص سرمایہ سے ادا کا
حکم خواہ وہ سرمایہ ادا کے لئے موجود ہو یا نہ ہو
یا اس کی ادائیگی کسی ایسی شرط پر موقوف ہو جو
پوری ہو یا نہ ہو یا کسی ایسے امر اتفاق پر موقوف
ہو جو واقع ہو یا نہ ہو۔

(ب) - کسی رقم کے ہفتہ وار یا ماہانہ
یا مدت معینہ پر ادا کا حکم۔

(ج) (ر) رقمہ اجازتی یعنی سفارشی چٹھی
جس کی رو سے ایک شخص دوسرے شخص کو مجاز کر
کہ وہ کسی تیسرے شخص کو جس کے حق میں وہ لکھا گیا

(4) "bond" includes —

Bond.

(a) every instrument whereby a person agrees to pay money to another, on condition that the agreement shall be void if a specific act is performed, or is not performed, as the case may be;

(b) every instrument attested and not payable to order or bearer, whereby a person agrees to pay money to another;

(c) every instrument attested whereby a person agrees to deliver grain or any other kind of agricultural produce to another;

(5) "chargeable" means, as applied to an instrument executed after the commencement of this Act, or, as applied to an instrument first executed by several executants at different times, after the commencement of this Act, chargeable under this Act, and, applied to any other kind of instrument as chargeable

قانون اسٹامپ۔ نشان دم، اسٹامپ

ہے روپیہ قرض دے۔

تمک۔ (۴۱)۔ تمک "میں داخل ہے

(الف)۔ ہر دستاویز جس کی رو سے

ایک شخص دوسرے شخص کو اس شرط پر روپیہ ادا کرنے کا اقرار کرے کہ کسی خاص فعل کے عمل

میں آنے یا نہ آنے پر (جیسی صورت ہو) اقرار مذکور نسخ ہو جائے گا۔

(ب)۔ ہر دستاویز جس پر کسی کی گواہی

ہو اور جو قابض کے حکم پر یا حامل کو واجب الادا نہ ہو اور جس کی رو سے ایک شخص دوسرے شخص کو روپیہ دینے کا اقرار کرے۔

(ج)۔ ہر دستاویز جس پر گواہی ثبت

ہو اور جس کی رو سے ایک شخص دوسرے شخص کو غنہ یا اور کسی قسم کی پیداوار زرعی حوالہ کرنے کا اقرار کرے۔

واجب الاخذ۔ (۵)۔ "واجب الاخذ" سے

قانون ہذا کے بموجب واجب الاخذ مراد ہے

جب وہ کسی ایسی دستاویز کے متعلق استعمال کیا جائے جس کی تکمیل اس قانون کے نفاذ کے بعد

(Translation)

under the law in force when such instrument was executed or first executed;

(6) "cheque" means a bill of exchange drawn on a specified banker and endorsed to be payable only on demand;

(7) "Chief Controlling Stamp authority" means Member of the Executive Council in charge of the stamp Department;

(8) "Taluqdar" means, in the districts, the First Taluqdar of a district and, in the City of Hyderabad, the Inspector-General of Stamps. The Government may, by notification, appoint any other officer a Taluqdar for any special area.

قانون اسٹامپ۔ نشان (۴) ۱۳۳۱
کی گئی ہو یا جب مختلف تکمیل کنندگان نے مختلف
اوقات پر تکمیل کی ہو تو جب اس کی تکمیل اول
مرتبہ قانون ہذا کے نفاذ کے بعد ہوئی ہو۔ اور

جب وہ کسی اور قسم کی دستاویز کے متعلق
استعمال کیا جائے تو اس قانون کی رو سے اسے اس
مراد سے جو اس دستاویز کی تکمیل یا تکمیل اول
کے وقت نافذ ہو۔

چیک - (۶) "چیک" سے وہ بل آف
اے کیسٹنچ مراد ہے جو کسی خاص بینکر کے نام لکھا
جائے اور جس میں صرف عندا طلب ادا کئے
جانے کا حکم ہو۔

حاکم اعلیٰ نگرانی صیفہ اسٹامپ - (۷) "حاکم اعلیٰ
نگرانی صیفہ اسٹامپ" سے صدر المہام صیفہ اسٹامپ
مراد ہے۔

تعلقدار - (۸) "تعلقدار" سے اضلاع میں
اول تعلقدار ضلع اور بلدہ میں انسپیکٹر جنرل اسٹامپ
مراد ہیں سرکار عالی کو اختیار ہوگا کہ کسی اور عہد دار
کو بذریعہ اشتہار کسی خاص رقبہ کے لئے تعلقدار
مقرر کرے۔

(Translation)

(9) "conveyance" includes every instrument by which a person transfers any property in his life time and for which there is no specific provision in the Schedule.

(10) "duly stamped" as applied to an instrument means that an adhesive or impressed stamp of not less than an amount prescribed therefor by law has been used on the instrument and that such stamp has been affixed or used in accordance with the law enacted by the Government.

(11) The word "executed" used with reference to an instrument means "signed" and, when "execution" of an instrument is said to have been made, it means the affixing of signature thereto.

(12) "impressed stamp" includes —

(a) labels affixed and impressed by the competent officer;

قانون اسٹامپ - نشان (۲) ۱۳۳۱ء

بیعنامہ - (۹) - "بیعنامہ" میں ہر ایسی دستاویز داخل ہے جس کی رو سے کوئی شخص کسی جائیداد کو اپنی زندگی میں منتقل کر دے اور جس کیلئے ضمیمہ میں کوئی خاص حکم نہ ہو۔

باضابطہ اسٹامپ شدہ - (۱۰) - "باضابطہ اسٹامپ شدہ" سے یہ تعلق کسی دستاویز کے یہ مراد ہے کہ اس دستاویز پر چسپا نیڈنی یا منقشہ اسٹامپ مستعمل ہوا ہے جو اس رٹسم سے کم نہیں ہے جو اس کے لئے قانوناً مقرر ہے اور وہ اسٹامپ حسب قانون مجربہ سرکار عالی جیساں کیا گیا یا مستعمل ہوا ہے۔

تکمیل شدہ و تکمیل - (۱۱) - الفاظ "تکمیل شدہ" جب وہ کسی دستاویز کے متعلق استعمال کئے جائیں تو ان سے دستخط شدہ مراد ہے اور جب یہ کہا جائے کہ کسی دستاویز کی تکمیل کی گئی ہے تو اس سے اس پر دستخط ہونا مراد ہے۔

منقشہ اسٹامپ - (۱۲) - "منقشہ اسٹامپ" میں داخل ہیں

(الف) - ٹکٹ جن کو عہدہ دار مجاز نے جیساں اور منقشہ کیا ہو۔

(Translation)

(b) stamps embossed or engraved on stamped paper.

(ب) - اسٹامپ جو اسٹامپ کے کاغذ پر ابھرے ہوئے یا منقش ہوں۔

(13) "instrument" includes every writing by which any right or liability is, or purports to be, created, transferred, limited, extended, extinguished or recorded ;

دستاویز - (۱۳) - "دستاویز" میں ہر ایسا نوشتہ داخل ہے جس کے ذریعہ سے کوئی استحقاق یا ذمہ داری پیدا یا منتقل یا محدود یا وسیع یا ساقط کی گئی ہو یا اس کا اندراج کیا گیا ہو۔ یا جس سے اس کرنا ظاہر ہوتا ہو۔

(14) "instrument of partition" means any instrument whereby co-owners of any property divide or agree to divide such property among them and includes a private award directing a partition ;

تقسیم نامہ - (۱۴) - "تقسیم نامہ" سے ہر دستاویز مراد ہے جس کی رو سے کسی جائداد کے شرکاء جائداد مذکور کو باہم تقسیم کر لیں یا تقسیم پر رضی ہوں اور اس میں فیصلہ ثالثی خانگی جس میں تقسیم کا حکم ہو داخل ہے۔

(15) "lease" means an instrument whereby immovable property is leased and includes -

دستاویز اجارہ - (۱۵) - "دستاویز اجارہ" سے وہ دستاویز مراد ہے جس کے ذریعہ سے جائداد غیر منقولہ کا اجارہ دیا گیا ہو اور اس میں داخل ہے۔

(a) an instrument of patta ;

(الف) - دستاویز پٹہ۔

(b) a kabuliyat or other instrument containing an undertaking, not being a kabuliyat of a lease, to cultivate, occupy or pay or deliver rent for immovable property ;

(ب) - قبولیت یا ایسی دستاویز جس میں جائداد غیر منقولہ کے کاشت کرنے یا اس پر درجیل رہنے یا اس کی بابت کرایہ یا لگان ادا یا

(Translation)

(c) an instrument by which toll of any description is let;

(d) any writing on an application for obtaining a lease signifying that the application is granted;

(16) "mortgage-deed" includes every instrument whereby, for securing the recovery of the money advanced or to be advanced by way of loan, or for securing the recovery of an existing or a future debt, or the performance of a contract, a person transfers to, or creates in favour of another person, a right over or in respect of specified property;

(17) "power of attorney" includes any instrument (not chargeable with a fee under the Court Fees Act) empowering a specified person to act for the executant;

تاون اسٹامپ - نشان دم (۳۳) لٹ

حوالہ کرنے کا وعدہ ہوا اور جو دستاویز اجارہ کی قبولیت نہ ہو۔

(ج)۔ ایسی دستاویز جس کے ذریعہ سے

کسی قسم کی محصول کا تعہد دیا جائے۔

(د)۔ کوئی تحریر جو کسی درخواست حصول

اجارہ پر ہوا اور جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ درخواست منظور کی گئی۔

رہن نامہ۔ (۱۶)۔ "رہن نامہ" میں ہر دستاویز

داخل ہے جس کے ذریعہ سے اس رہن گیر کے

وصول کے اطمینان کے لئے جو قرضہ دیا گیا ہو یا قرضہ

دیا جائے یا کسی موجودہ یا آئندہ قرضہ کے وصول

کے اطمینان کے لئے یا کسی معاہدہ کی تعمیل کے لئے

کوئی شخص کسی عین بابت کو یا اس کے متعلق کوئی حق

کسی دوسرے شخص کے نام یا اس کے حق میں منتقل یا

قائم کرے۔

مختار نامہ۔ (۱۷)۔ "مختار نامہ" میں ہر

دستاویز داخل ہے (جس پر قانون رسوم عدالت

کی رو سے کوئی رسوم واجب الاخذہ ہو) جس کی

رو سے کسی خاص شخص کو اختیار دیا جائے کہ وہ

یکمیل کنندہ کی طرف سے کارروائی کرے۔

(Translation)

(18) "promissory note" means a promissory note as defined in the Hyderabad Negotiable Instruments Act, and it also includes a writing promising the payment of any sum of money out of any particular fund which may or may not be available for payment or upon any condition or contingency which may or may not be fulfilled or happen ;

(19) "receipt" includes any note, memorandum or writing, whether the same is signed or is not by any person —

(a) whereby money, bill of exchange, cheque or promissory note is acknowledged to have been received ; or

(b) whereby any other movable property is acknowledged to have been received in satisfaction of a debt ; or

قانون اسٹامپ - نشان (۴) اسٹامپ

پروامیسری نوٹ - (۱۸) - "پروامیسری نوٹ"

سے ایسا پروامیسری نوٹ مراد ہے جس کی تعریف

قانون دستاویزات قابل بیع و شری ممالک

مخردہ سرکار عالی میں کی گئی ہے اور اس میں

ایسی تحریر بھی داخل ہے جس میں کسی قسم کے کسی

خاص سرمایہ سے ادا کا وعدہ کیا جائے خواہ وہ

سرمایہ ادا کے لئے موجود ہو یا نہ ہو یا اس کی

ادا ہی کسی ایسی شرط پر موقوف ہو جو پوری ہو

یا نہ ہو یا کسی ایسے امر اتفاقی پر موقوف ہو جو واقع

ہو یا نہ ہو -

رسید - (۱۹) - "رسید" میں ہر چٹھی یا

یادداشت یا تحریر داخل ہے خواہ اس پر کسی

شخص کے دستخط ہوں یا نہ ہوں -

(الف) - جس کے ذریعہ سے زر نقد

یا بل آف اکسچینج یا چیک یا پروامیسری نوٹ کے

وصول ہونے کا اقرار کیا جائے - یا

(ب) - جس کے ذریعہ سے کسی قرضہ کے

ایفار میں کسی اور جائیداد منقولہ کے وصول ہونے کا

(Translation)

(c) whereby any debt or demand or a part thereof is acknowledged to have been paid or discharged; or

(d) which signifies or imports any acknowledgment mentioned in clause (a), (b) or (c).

(20) "settlement" means a disposition in writing, not Settlement, of the nature of a testament of movable or immovable property made —

(a) in consideration of marriage, or

(b) for the purpose of distributing property among the relatives of the settler or the persons whom he desires to maintain; or

(c) for the purpose of maintaining the persons dependent on him; or

(d) for any religious or charitable purpose;

تازن اسٹامپ۔ نشان (۲۰) سٹمٹ

اقرار کیا جائے۔ یا

(ج)۔ جس کے ذریعہ سے کسی قرضہ یا مطالبہ یا اس کے جزو کے ادایا بے باق ہونے کا اقرار کیا جائے۔ یا

(د)۔ جسکی عبارت سے اقرار متذکرہ ضمن الف یا ب یا ج مفہوم یا مترشح ہوتا ہو۔

تملیک نامہ۔ (۲۰)۔ "تملیک نامہ" سے جائیداد منقولہ یا غیر منقولہ کی تحریری تملیک مراد ہے جو از قسم وصیت نہ ہو اور جو

(الف)۔ بہ معاوضہ ازدواج ہو۔ یا
(ب)۔ بغرض تقسیم جائیداد یا بین قرابت داران تملیک کنندہ یا دون اشخاص کے ہو جن کی وہ پرورش کرنا چاہتا ہو۔ یا

(ج)۔ بغرض پرورش اور اشخاص کے ہو جو اس کے زیر پرورش ہوں۔ یا

(د)۔ کسی مذہبی یا خیراتی غرض کیلئے ہو۔

and includes an agreement which contains a promise for such disposition and, where any disposition has not been made in writing, the word includes any instrument recording, whether by way of declaration of trust or otherwise, the terms of such disposition.

CHAPTER II.

STAMP DUTIES.

(a) Instruments Chargeable with Stamp Duty.

3. Subject to the provisions of this Act and the exemptions contained in the schedule, the following instruments shall be chargeable with stamp duty of the amount prescribed in the schedule:—

(a) every instrument mentioned in that Schedule which, not having

اور اس میں ایسا اقرار نامہ بھی داخل ہے جس میں ایسی تملیک کا وعدہ کیا جائے اور جب کوئی انتقال تحریر یا نہ ہو، تو لفظ مذکور میں ایسی دستاویز داخل ہے جس میں خواہ باظہار امانت یا اور طور پر انتقال مذکور کی شرائط درج ہوں۔

باب دوم

رسوم اسٹامپ۔

(الف)۔ دستاویزات جن پر رسوم اسٹامپ واجب الاخذ ہے۔

کن دستاویزات پر رسوم اسٹامپ واجب الاخذ ہے اور کس قدر۔

قانون ہذا دستاویزات مندرجہ ضمیمہ دستاویزات مفصلہ ذیل پر اس قدر رسوم اسٹامپ واجب الاخذ ہوگا جو ضمیمہ مذکور میں مستردہ دیا گیا ہے۔

(الف)۔ ہر دستاویز مندرجہ ضمیمہ

(Translation)

been previously executed by any person, is executed in H.E.H. the Nizam's Dominions on or after the commencement of this Act;

(b) every *[bill of exchange payable otherwise than on demand] or promissory note, drawn out of H.E.H. the Nizam's Dominions on or after the commencement of this Act and accepted, or paid, or presented for acceptance or payment, or endorsed, transferred, or otherwise negotiated in H.E.H. the Nizam's Dominions; and

(c) every instrument (other than a bill of exchange* [] or promissory note) mentioned in the Schedule which, not having been previously executed by any person, is executed out of H.E.H. the Nizam's Dominions on or after the commencement of this Act, relates to any property situate in H.E.H. the Nizam's Dominions or relates to any matter done or to be done in H.E.H. the Nizam's Dominions and the instrument is brought into H.E.H. the Nizam's Dominions:

*Amended by Regulation No. XIV of 1359 F.

قانون اسٹامپ۔ نشان (م) ۱۳۳۱ ف

مذکورہ جس کی تکمیل پہلے سے کسی شخص کی طرف سے نہ ہوئی ہو اور جو بتاریخ نفاذ قانون ہدایا اس کے بعد ممالک محروسہ سرکار عالی میں تکمیل پائے۔

(ب)۔

every *[bill of exchange payable otherwise than on demand.]

یا پیرامیسری نوٹ جو بتاریخ نفاذ قانون ہدایا اس کے بعد ممالک محروسہ سرکار عالی کے باہر لکھا جائے اور ممالک محروسہ سرکار عالی کے اندر سکارایا ادا کیا جائے یا سکارنے یا ادا کیے پیش کیا جائے یا اس پر عبارت ظہری یا عبارت انتقال لکھی جائے یا اور طور پر اس کی بیع و شری کی جائے۔ اور

(ج)۔ ہر دستاویز (باستثناء بیل آف

ایچینج) [یا پیرامیسری نوٹ] مندرجہ ضمیمہ مذکور جس کی تکمیل پہلے سے کسی شخص کی طرف سے نہ ہوئی

ہو اور بتاریخ نفاذ قانون ہدایا اس کے بعد ممالک محروسہ سرکار عالی کے باہر تکمیل پائے اور

کسی ایسی جائداد سے متعلق ہو جو ممالک محروسہ سرکار عالی کے اندر موجود ہو یا کسی ایسے امر سے

*Amended by Regulation No. XIV of 1359 F.

(Translation)

Provided that stamp duty shall not be chargeable on any instrument written by, or on behalf of, or in favour of the Government in case where, but for this exemption, the Government would be liable to pay the stamp duty chargeable.

4. (1) Where the transaction is of sale, mortgage or settlement and more than one instrument are written for completion thereof, the principal instrument only shall be chargeable with the stamp duty prescribed in the Schedule for the conveyance, mortgage or settlement and each of the other instruments shall be chargeable with a stamp duty of * [three rupees] only, notwithstanding anything to the contrary contained in the schedule.

Where several instruments are executed in single transaction of sale, mortgage or settlement.

تانون اسٹامپ۔ نشان (۳) روپے

متعلق ہو جو مالک محدودہ سرکار عالی کے اندر کیا جائے یا کیا جانے والا ہو اور وہ دستاویز مالک محدودہ سرکار عالی کے اندر لائی جائے۔

مگر شرط یہ ہے کہ کسی دستاویز پر جو سرکار عالی کی جانب سے یا سرکار عالی کے لئے یا سرکار عالی کے حق میں لکھی جائے اس صورت میں اسٹامپ واجب الاخذ ہوگا جبکہ یہ حالت ہونے اس استثنیٰ کے سرکار عالی پر اسٹامپ واجب الاخذ اگر نیکی ذمہ داری عائد ہوتی۔

جب بیع۔ رین یا تملیک کی ایک ہی دفعہ۔
کارروائی میں متعدد دستاویزات (۱) جب معاہدہ تکمیل کی جائیں۔
بیع یا رین یا

تملیک کا ہو اور اس کی تکمیل کے لئے ایک سے زائد دستاویزات لکھی جائیں تو بیع نامہ یا رین یا تملیک نامہ کے لئے جو اسٹامپ ضمیمہ میں واجب الاخذ قرار دیا گیا ہے وہ صرف اصل دستاویز پر

واجب الاخذ ہوگا اور بقیہ دستاویزات
* [THREE RUPEES] میں سے ہر ایک پر صرف

(Translation)

(2) The parties may determine which of the few instruments shall, for the purposes of sub-section (1), be deemed to be the principal instrument:

Provided that the stamp duty chargeable on such principal instrument shall be the highest duty which would be chargeable on any of the said instruments.

5. Any instrument comprising or relating to certain distinct matters and not forming part of the same transaction shall be chargeable with the aggregate amount of the duties with which, if separate instruments were written for each of such matters, would be chargeable.

Stamp duty when instrument comprises certain matters.

قانون اسٹامپ - نکان (۴) اسٹامپ

کا اسٹامپ واجب الاخذ ہو گا گو ضمیمہ مذکور میں کوئی اور حکم ہو۔

(۲) - فریقین یہ قرار دے سکتے ہیں کہ ایسی چند دستاویزات میں سے ضمن (۱) کی اغراض کے لئے کوئی دستاویز اصل سمجھی جائے گی

مگر شرط یہ ہے کہ اسٹامپ جو ایسی اصل دستاویز پر واجب الاخذ ہو گا وہ سب سے زیادہ قیمت کا ہو گا جو ان دستاویزات میں سے کسی پر واجب الاخذ ہو۔

رسوم اسٹامپ جب دستاویز (فصل ۵) پر چند مطالب پر حاوی ہو۔ دستاویز پر جو ایسے

بہ چند مطالب پر حاوی یا ان سے متعلق ہو جو ایک دوسرے سے بالکل جدا گانہ ہوں اور ایک ہی معاملہ کا جز نہ ہوں رسوم بقدر مجموعہ ان رسوم کے واجب الاخذ ہوگی جو ان مطالب میں سے ہر ایک کی باقیہ علیحدہ علیحدہ دستاویز لکھے جانے کی صورت میں واجب الاخذ ہوتی۔

(Translation)

6. Subject to the provisions of section 5, when an instrument is so framed as to come under two or more items of the schedule, and where different duties are chargeable therefor such instrument shall be chargeable with the highest duty of such items:

Duty when instrument comes under two or more items in schedule.

instrument shall be chargeable with the highest duty of such items:

Provided that nothing contained in this Act shall render chargeable with duty exceeding *[three rupees] a counterpart or duplicate of any instrument chargeable with duty and in respect of which the proper duty has been paid.

7. The Government may, by order

Power of Government to reduce or remit duties.

or rule published in the

Jarida —

(a) reduce or remit, whether prospectively or retrospectively, in the whole or any part of H.E.H. the

قانون اسٹامپ۔ نشان (۴) ۱۳۳۱ء

رسم جب دستاویز ضمیمہ کی دو یا دفعہ ۶ زیادہ مدات میں داخل ہو۔
بیابندی احکام

دفعہ ۵ جب کوئی دستاویز اس طرح مرتب کی گئی ہو کہ وہ ضمیمہ کی دو یا زیادہ مدات میں داخل ہو سکے اور ان مدات کے لئے مختلف رسوم واجب الاخذ ہوں تو ایسی دستاویز پر وہ رسوم واجب الاخذ ہوں گی جو ان مدات میں سے سب سے زائد ہو۔

مگر شرط یہ ہے کہ قانون نفاذ کے کسی حکم کا یہ اثر نہ ہو گا کہ کسی ایسی دستاویز کے مشنلی یا پرت ثنائی کی بابتہ جو قابل ادائیگی رسوم ہو اور جس کی بابتہ کامل رسوم ادا ہو چکی ہو [THREE RUPEES] سے زیادہ رسوم لی جائے۔

سرکار عالی کا اختیار نسبت دفعہ ۶ سرکار عالی تخفیف یا معافی رسوم۔ کو اختیار ہے کہ نذر

حکم یا قاعدہ مندرجہ جویدہ

(الف)۔ کل یا جزو ممالک محروسہ سرکار عالی

(Translation)

Nizam's Dominions, the duties which are payable on any instrument or any particular class of instruments, or on instruments written by or, in favour of any class of persons or by or in favour of a few persons of such class.

(b) repeal or alter such order or rule within the scope of the powers conferred by this Act.

(B) Stamp and mode of its use.

8. (1) Except as otherwise expressly provided in this Act, all duties chargeable in respect of instruments shall be paid and such payment shall be indicated on the instruments by means of stamps -

Mode of paying stamp duties.

قانون اسٹامپ - نشان (۲) ۳۳۱

میں آئندہ کے لئے یا زمانہ گذشتہ کی بابت ان رسوم کو تخفیف یا معاف کرے جو کسی دستاویز یا خاص قسم کی دستاویزات پر یا ایسی دستاویزات پر جو کسی فرقہ اشخاص کی طرف سے یا ان کے حق میں یا اس فرقہ کے چند آدمیوں کی طرف سے یا ان کے حق میں لکھی گئی ہوں۔ واجب الادا ہیں۔

(ب) - ایسے حکم یا قاعدہ کو تا حد ان اختیارات کے جو اس قانون میں عطا ہوئے ہوں غور یا تبدیل کرے۔

(ب) - اسٹامپ اور اس کا طریقہ استعمال۔

رسوم اسٹامپ اور کرنے کا طریقہ - دفعہ ۸ (۱) ریکارڈ
اس کے کہ قانون ہذا میں کوئی صریح حکم اس کے خلاف ہو تمام رسوم جو دستاویزات کی بابت واجب الاخذ ہو۔ بذریعہ اسٹامپ اور کی جائے گی اور ایسی ادائیگی دستاویزات پر بذریعہ اسٹامپ ظاہر ہوگی۔

Stamp [1331 F.: HYD. ACT IV

(Translation)

(a) according to the provisions contained in this Act; or

(b) when there is no provision in respect thereof in this Act, in such manner as the Government may by rules prescribe.

(2) The rules made under sub-section (1) may *inter alia* apply to the following matters:-

(a) the description of stamp which shall be used for each kind of instrument;

(b) where instruments are impressed with stamps, the number of stamps which may be used;

(c) the size of the paper on which bill of exchange or promissory note shall be written.

9. The following instruments may Instruments be stamped with adhesive stamps:—
adhesive stamp may be affixed.

قانون اسٹامپ رٹان (۱۹۳۳ء) سیکشن ۱۳

(الف)۔ حسب احکام مندرجہ

قانون ہذا۔ یا

(ب)۔ جب قانون ہذا میں اس کے متعلق کوئی حکم نہ ہو تو اس طریقہ سے جو سرکاری بذریعہ قواعد مقرر کرے۔

(۲)۔ قواعد جو حسب ضمن (۱)، وضع کئے

جائیں وہ مجملہ اور امور کے حسب ذیل امور کے متعلق ہو سکتے ہیں:-

(الف) ہر قسم کی دستاویز کے لئے کس قسم کا اسٹامپ استعمال کیا جائے گا۔

(ب)۔ جب دستاویزات پر اسٹامپ ٹھپے سے منقش ہوں تو اسٹامپ کس قدر تعداد میں استعمال کئے جا سکیں گے۔

(ج)۔ بل آف ایکسچینج یا پرامیسری نوٹ کس قدر عرض و طول کے کاغذ پر لکھے جائیں گے۔

کن دستاویزات پر اسٹامپ دفعہ ۹ میں مفصلہ چسپا نیڈنی لگانا جائز ہے۔ ذیل دستاویزات پر

(a) instruments for which a duty of * [one and a half annas or one anna] is prescribed except parts of a bill of exchange not payable on demand and drawn in a few sets;

(b) bill of exchange† [] and promissory note made out of H.E.H. the Nizam's Dominions;

(c) transfer by endorsement of shares of any incorporated company or body, corporate.

10. (1) (a) Whoever affixes adhesive stamp to any duty payable instrument which has been executed by any person shall, when affixing stamp, so cancel or obliterate the same that it cannot be used again; and

*Substituted by Regulation No. XIV of 1359 F.
†Omitted by Regulation No. XIV of 1359 F.

قانون اسٹامپ - نشان (م) ۱۳۳۱ء
(Translation)
اسٹامپ چپانیدنی لگانا جائز ہے :-

(الف) - وہ دستاویزات جن پر
* رسوم بقدر [ONE AND A HALF ANNAS OR ONE ANNA] مقرر ہے بجز اجزاء ایسے بل آف ایکسچینج کے جو عند اطلب واجب الادا نہ ہو اور جس کی چند پر تیس لکھی جائیں -

(ب) - بل آف ایکسچینج [] اور پریامری نوٹ جن کی تکمیل بیرون ممالک محروسہ سرکاری کی جائے -

(ج) - کسی رجسٹری شدہ کمپنی یا رند یافتہ جماعت کے حصص کا انتقال بذریعہ عبارت ظہری -

اسٹامپ چپانیدنی کا **وقف نامہ** - (۱) -
قلمزد کیا جانا - (الف) کوئی شخص

جو کسی دستاویز قابل ادائیگی رسوم پر جس کی تکمیل کسی شخص نے کی ہو اسٹامپ چپانیدنی ثبت کرے وہ اسٹامپ ثبت کرنے کے وقت

*Amended by Regulation No. XIV of 1359 F.

(b) whoever executes any instrument on any paper bearing an adhesive stamp shall, at the time of such execution, unless such stamp has been already cancelled or obliterated in the manner aforesaid, so cancel or obliterate the same that it cannot be used again.

(2) Any instrument bearing an adhesive stamp which has not been so cancelled or obliterated that it cannot be used again shall, so far as such stamp is concerned, be deemed to be unstamped.

(3) The person required by subsection (1) to cancel or obliterate an adhesive stamp may cancel or obliterate it by writing on it his name or initials or the name or initials of his firm with the true date of his so writing, or in any other effectual manner.

قانون اسٹامپ - نشان (۴) ۱۳۳۱ء

اس کو اس طرح قلمزدیا بیکار کرے گا کہ وہ مکرر استعمال نہ کیا جاسکے۔ اور

(ب) کوئی شخص جو کسی ایسے کاغذ پر کسی دستاویز

کی تکمیل کرے جس پر چپانیدنی اسٹامپ ثبت ہو

وہ ایسی تکمیل کے وقت اس اسٹامپ کو اس طرح

قلمزدیا بیکار کرے گا کہ وہ مکرر استعمال نہ کیا جاسکے

بجز اس کے کہ وہ اسٹامپ حسب طریقہ مصرعہ

صدر اس کے قبل قلمزدیا بیکار کیا جاسکا ہو۔

(۲) کوئی دستاویز جس پر اسٹامپ

چپانیدنی ثبت ہو لیکن وہ اسٹامپ اس طرح

قلمزدیا بیکار نہ کیا گیا ہو کہ وہ مکرر استعمال نہ کیا جاسکے

جہاں تک کہ اس اسٹامپ کا تعلق ہے غلطی سے

شذوہ متصور ہوگی۔

(۳) جس شخص پر حسب ضمن لاء قلمزدیا

بیکار کرنا لازم ہے وہ چپانیدنی اسٹامپ کو اس طرح قلمزدیا

بیکار کر سکتا ہے کہ اس پر اپنا نام یا اپنے نام کے

ابتدائی حروف لکھے یا اپنی کوٹھی کا نام یا اس نام کے

ابتدائی حروف لکھے اور اس پر ایسی تحریر کی

صحیح تاریخ لکھے یا وہ اس کو کسی اور موثر طریقے سے

(Translation)

11. Every instrument written upon paper stamped with impressed stamp shall be written in such manner that the stamp may appear on the face of the instrument and such stamp cannot be used for or applied to any other instrument.

12. No second duty payable instrument shall be written upon any stamped paper upon which a duty payable instrument has already been written :

Provided that nothing in this section shall prevent any endorsement which is duly stamped or in respect of which no duty is payable being made upon any instrument for the purpose of transferring any right created or expressed thereby, or of acknowledging the receipt of any money or goods the payment or delivery of which is acknowledged in such instrument.

قانون اسٹامپ۔ نشان دہم اسٹامپ
تعمیر دیا بیکار کر سکتا ہے۔

اسٹامپ منقش پر دستاویز | دفعہ ۱۱۔ ہر دستاویز
لکھنے کا طریقہ۔ جو منقش اسٹامپ کے کاغذ

پر لکھی جائے وہ اس طرح لکھی جائے گی کہ اسٹامپ
دستاویز کی پیشانی پر نمایاں رہے اور ایسا
اسٹامپ کسی دوسری دستاویز کے لئے مستعمل یا
کارآمد نہ ہو سکے۔

دفعہ ۱۲۔ جب کسی اسٹامپ پر کوئی دستاویز
لکھی جا چکی ہو تو اس پر کوئی دوسری
دستاویز نہ لکھی جائے گی۔
دستاویز لایق

ادائی رسوم کسی ایسے اسٹامپ کے کاغذ پر نہ لکھی
جائیں جس پر کوئی دستاویز لایق ادائی رسوم
اوس کے قبل لکھی جا چکی ہو۔

مگر شرط یہ ہے کہ دفعہ تدارک کوئی مضمون
اس کے مانع نہ ہو گا کہ کوئی عیب رست نظری
جس پر حسب منابطہ اسٹامپ ثبت ہو یا جس
کی بابت کوئی رسوم واجب الادا نہ ہو۔ کسی دستاویز
پر اس غرض سے لکھی جائے کہ جو حق اس دستاویز
کی رو سے قائم یا ظاہر کیا گیا ہو وہ منتقل کیا جائے
یا کسی رسم یا مال کی وصول یا بیانی کا اقرار کیا جائے

13. Every instrument written in

Effect of
contraven-
tion of pro-
visions of
sections 11
and 12. contravention of section
11 or section 12 shall be
deemed to be unstamped.

14. Where the duty with which an
instrument is chargeable,

Payment of
duty when to
be denoted
by Taluqdar. or the exemption from
duty of any instrument,
depends upon the duty
actually paid in respect
of another instrument, the amount of
duty already paid of the latter instru-
ment shall on application being made
for that purpose and on production of
both the instruments be denoted upon
the first-mentioned instrument, by en-
dorsement, under the hand of the
Taluqdar or in such manner as the
Government may by rules prescribe.

(C) The time of stamping instru-
ments.

قانون اسٹامپ - نشان (۴) سٹامپ

جس کی ادائیگی یا خواہگی کا دستاویز مذکور میں

اقرار ہو۔

خلافت و رزی احکام | دفعہ ۱۳ - ہر دستاویز
دفعہ ۱۱ کا اثر - جو دفعہ ۱۱ یا دفعہ ۱۲ کے

احکام کے خلاف لکھی جائے وہ غیر اسٹامپ شدہ
مقصود ہوگی۔

تعلقہ ادا داتی رسوم کی | دفعہ ۱۴ - جب یہ امر کہ
کیفیت کب تجریر کرے گا - کسی دستاویز پر کس قدر

رسوم واجب الاخذ ہے یا کوئی دستاویز ادا داتی
رسوم سے معاف ہے اس امر پر تجریر ہو کہ کسی
دوسری دستاویز کے متعلق فی الواقع کس قدر
رسوم ادا ہو چکی ہے تو اس غرض کے لئے

درخواست اور دونوں دستاویزات کے پیش
ہونے پر دستاویز اول الذکر پر بذریعہ جہارت
ظہری کتنی تعلقہ ادا یا اس طریقہ پر جو مندرجہ
بذریعہ قواعد مقرر کرے اس امر کی کیفیت درج
کی جائے گی کہ اس دوسری دستاویز پر کس قدر
رسوم ادا کی جا چکی ہے۔

(ج) - دستاویزات پر اسٹامپ

نگانے کا وقت۔

(Translation)

15. All instruments chargeable with duty and executed within H. E. H. the Nizam's Dominions shall be stamped at or before the time of execution.

Instruments executed within H.E.H. the Nizam's Dominions.

16. (1) Instruments, other than a bill of exchange, * [and promissory note chargeable with duty, and executed only out of H. E. H. the Nizam's Dominions may be stamped within three months from the date on which they are for the first time brought into H. E. H. the Nizam's Dominions.

Instruments other than bills of exchange, * [and Promissory notes executed out of H.E.H. the the Nizam's Dominions.

(2) Where any such instrument can not according to the description of stamp prescribed therefor be stamped by a non official, it shall be produced within the aforesaid period of three months before the Taluqdar who shall stamp the same in such manner as the Government may, by rules, prescribe, with stamp of such

قانون اسٹامپ۔ نشان (۴) ۱۳۳۱ء

جس دستاویزات ممالک محروسہ سرکار عالی کے اندر تکمیل کی جائیں۔
دستاویزات جن پر دفعہ ۱۵

رسوم واجب الاخذ ہو اور جو ممالک محروسہ سرکار عالی کے اندر تکمیل کی جائیں ان پر اس وقت تکمیل کے وقت یا اس کے قبل لگایا جائیگا۔

بل آف اکیچینج] * اور پرائمری نوٹ کے دفعہ ۱۶۔
سوائے دوسری دستاویزات جو (۱)۔ بل آف بیرون ممالک محروسہ تکمیل کی جائیں۔ * اکیچینج] اور

پرائمری نوٹ کے سوائے دوسری دستاویزات جن پر رسوم واجب الاخذ ہو اور جن کی تکمیل صرف بیرون ممالک محروسہ سرکار عالی ہوتی ہو ان پر اسٹامپ اس تاریخ سے تین مہینے کے اندر ثبت کیا جاسکتا ہے جب وہ اول مرتبہ ممالک محروسہ سرکار عالی میں لائی جائیں۔

(۲)۔ جب اسٹامپ کی نوعیت کے

محافظ سے جو اس دستاویز کے لئے مقرر کیا گیا ہو اس اسٹامپ کو غیر سرکاری شخصیت

*Omitted by Regulation No. XIV of 1359 F.

*Omitted by Regulation No. XIV of 1359 F.

value as the person producing the instrument may require and pay :

17. Every person who is the first holder in H.E.H. the Nizam's Dominions of any bill of exchange*[] or promissory note made out of H.E.H. the Nizam's Dominions, before presenting the same for acceptance or payment, or endorsing or transferring or otherwise negotiating the same in H. E. H. the Nizam's Dominions, affix thereto the chargeable stamp and cancel and obliterate the same:

Bills of exchange*[] and promissory notes made out of H.E.H. the Nizam's Dominions,

قانون اسٹامپ نشان (م) اسٹامپ

نہ کر سکتا ہو تو وہ دستاویز تین مہینے کی مدت
متذکرہ صدر کے اندر تعلقدار کے رو برو پیش
کی جائے گی اور وہ اس پر اس طریقہ کے موافق
جو سرکار عالی نے بذریعہ قواعد مقرر کیا ہو اس
قدر اسٹامپ ثبت کرے گا جس کی پیش
کنندہ دستاویز رقم ادا کر کے خواہش کرے۔

بل آف ایکسچینج [اور پرائمری نوٹ] وقوع کے اور
جنکی تکمیل بیرون ممالک محروسہ ہوئی۔ ہر شخص جو ممالک
محروسہ سرکار عالی میں کسی ایسے بل آف ایکسچینج [*
یا پرائمری نوٹ کا پہلا قابض ہو جس کی
تکمیل بیرون ممالک محروسہ سرکار عالی ہوئی ہو
اس کو ممالک محروسہ سرکار عالی میں سکرائی یا
ادائیگی کے لئے پیش کرنے یا اس پر عبارت
ظہری لکھنے یا اس کو منتقل کرنے یا اس کی
اور طور پر خرید و فروخت کرنے کے قبل اس پر
اسٹامپ واجب الاخذ ثبت کر کے اس کو قلمزد
اور بیکار کرے گا۔

Provided that—

(a) if, at the time any such bill of exchange* [] or promissory note comes into the possession of any holder in H. E. H. the Nizam's Dominions, the chargeable adhesive stamp is affixed thereto, and cancelled and obliterated in the manner mentioned in section 10 and such holder has no reason to believe that such stamp was affixed or cancelled or obliterated otherwise than by the person authorised and at the time prescribed by this Act, such stamp shall, so far as it relates to such holder, be deemed to have been duly affixed, cancelled and obliterated ;

(b) nothing contained in this proviso shall relieve any person from liability incurred by him for omitting to affix the stamp thereon or cancel or obliterate it.

قانون اسٹامپ - نشان دم، اسٹامپ

مگر شرط یہ ہے کہ

(الف) - جب کوئی ریسیبل آف

ایکسچینج [] یا پرمیسیوری نوٹ مالک محررہ سرکار عالی میں کسی قابض کے قبضہ میں آئے اور اس وقت اس پر واجب الاخذ اسٹامپ چپا نیدنی ثابت اور حسب طریقہ متذکرہ دفعہ ۱۰ قلمزد اور بیکار کیا گیا ہو اور ایسے قابض کو اس امر کے باور کرنے کی کوئی وجہ نہ ہو کہ اس اسٹامپ کو سوائے شخص مجاز کے کسی اور شخص نے یا سوائے وقت مقررہ قانون نہا کے کسی اور وقت پر ثبت یا قلمزد اور بیکار کیا گیا ہے تو جہاں تک اس قابض کا تعلق ہے ایسا اسٹامپ حسب ضابطہ ثبت اور قلمزد اور بیکار کیا گیا متصور ہوگا۔

(ب) - شرط ہذا کے کسی مضمون کا یہ اثر

نہ ہوگا کہ کسی شخص کو اس ذمہ داری سے محفوظ کیا جائے جو اس پر اسٹامپ ثبت نہ کرنے یا اس کو قلمزد یا بیکار نہ کرنے کی وجہ سے عائد ہو۔

*Omitted by Regulation No. XIV of 1359 F.

*Omitted by Regulation No. XIV of 1359 F.

(D) Valuation for Charging Duty.

18. (1) Where an *ad valorem* duty is payable on an instrument and the value is expressed in any foreign currency, the stamp duty shall be calculated in the Osmania Currency, at the market rate on the date of the instrument.

Foreign currency to be valued at market rate.

(2) The Government may, from time to time, by notification, prescribe a rate of exchange for any foreign currency into the Osmania Currency; and the rate contained in such notification shall be deemed to be the market-rate for the purposes of subsection (1).

19. Where *advalorem* duty is payable on any stock or security such duty shall be calculated at the average market price of such stock or security on the date of the instrument.

Mode of valuing stocks or other negotiable securities.

قانون اسٹامپ۔ نشان (۴۳) اسٹامپ

(۱)۔ تعیین مالیت بفرض اخذ رسوم

ملک غیر کے سکے کا تعیین مالیت (دفعہ ۱۸)۔
بموجب شرح بازار ہوگا۔ جب کسی دستاویز

پر رسوم مالیت کے لحاظ سے واجب الادا ہو اور
مالیت کسی ملک غیر کے سکے میں ظاہر کی گئی ہو تو
رسوم اسٹامپ سکے عثمانیہ کے حساب سے
اس شرح بازار سے محسوب ہوگی جو بتاریخ دستاویز

(۲)۔ سرکار عالی وقتاً فوقتاً بتدلیس

اشتہار یہ قرار دے سکے گی کہ کسی غیر ملک کے
سکے کی شرح بتاؤں سکے عثمانیہ کے ساتھ کیا ہوگی
اور جو شرح ایسے اشتہار میں درج ہو وہ ضمن
کی اغراض کے لئے شرح بازار تصور ہوگی۔

اسٹاک یا دیگر کفالت نامہ جات (دفعہ ۱۹)۔ جب
قابل بیع و شری کے تعیین مالیت کسی دستاویز پر
کا قاعدہ۔ رسوم کسی اسٹاک یا

کفالت نامہ کی مالیت کے لحاظ سے واجب الادا
ہو تو ایسی رسوم تاریخ دستاویز پر اس اسٹاک
یا کفالت نامہ کی اوسط قیمت بازار کے لحاظ سے

(Translation)

20. Where an instrument contains a statement of rate of exchange or the average market-price, and the instrument is stamped in accordance with such statement, it shall, so far as the statement relates to the subject matter of the instrument, be presumed, unless the contrary is proved, to be duly stamped.

21. Where interest is expressly made payable by the terms of an instrument, such instrument shall not be chargeable with duty higher than that with which it would have been chargeable had no mention of interest been made therein.

22. Where any property is transferred to any person in consideration, wholly or in part, of any debt due to him, or on condition that the transferee either absolutely or contingently, shall make the payment of any money or transfer any stock, whether being a charge or incumbrance upon the property trans-

تاقون اسٹامپ۔ نشان (۲۱) اسٹامپ
محسوب کیا جائے گی۔

دستاویز میں شرح بٹاؤن یا اوسط | دفعہ ۲۰۔
قیمت بازار کے اندراج کا اثر۔ جب کسی دستاویز
میں شرح بٹاؤن یا اوسط قیمت بازار کے متعلق کوئی
کیفیت درج ہو اور اس دستاویز پر اس
کیفیت کے لحاظ سے اسٹامپ لگایا گیا ہو تو
بجز اس کے کہ اس کے خلاف ثبوت ہو جہاں
تک کہ اس کیفیت کا شے مندرجہ دستاویز سے
تعلق ہے یہ قیاس کیا جائے گا کہ وہ دستاویز
حسب ضابطہ اسٹامپ شدہ ہے۔

دستاویزات جن میں سود | دفعہ ۲۱۔ جب کسی
واجب الادا ہو۔ دستاویز کی شرائط
کے لحاظ سے سود بالصرحت واجب الادا ہو تو اس دستاویز پر اس
سے زیادہ رسوم واجب الادا خذ نہ ہوگی جو اس صورت میں ہوتی جب
اس میں سود کی ادائیگی کا کوئی ذکر نہ ہوتا۔

دستاویزات انتقال پر رسوم جب | دفعہ ۲۲۔
اس کا بدلہ قرضہ ہو یا اس میں
آئندہ قرضہ دینے کا وعدہ۔ کسی شخص کے حق

میں کلا یا جہز امعا و منہ کسی قرضہ یا منتہی سے منتقل
کی جائے یا اس شرط پر منتقل کیا جائے کہ منتقل الیہ

ferred or not, such debt, money or stock shall be deemed to be the full consideration or part thereof, as the case may be and an *ad valorem* duty in respect of the amount of such consideration shall be payable on such transfer of property :

Provided that nothing in this section shall apply to the certificate of sale as mentioned in Article 12 of the Schedule.

Explanation:— When any property is sold subject to a mortgage or other incumbrance, the money remaining unpaid in respect of the mortgage or encumbrance together with the interest thereon shall be deemed to be part of the consideration for sale :

Provided that, where a property subject to a mortgage is transferred to the mortgagee, he shall be entitled to deduct from the duty payable the duty already paid in the past in respect of such mortgage.

تاقون اسٹامپ - نشان (۴) ، ۱۳۳۱ء

بلا کسی قید کے یا کسی خاص صورت میں کوئی رسم
ادا کرے گا یا کوئی اسٹاک منتقل کرے گا خواہ اسکی
بابت جائداد منتقل شدہ پر کفالت یا مواخذہ ہو
یا نہ ہو تو ایسا قرضہ رسم یا اسٹاک اُس معاوضہ
کا کل یا جسز و جیسی صورت ہو، منظور ہوگا
اور اُس انتقال جائداد کی بابت اُس معاوضہ کی
مالیت کے لحاظ سے رسوم اسٹامپ واجب الادا
ہوگی۔

مگر شرط یہ ہے کہ دفعہ مذکورہ کا کوئی مضمون
اُس سند نیلام سے متعلق نہ ہوگا جس کی ضمنیہ کی مدت (۱۲)
میں صراحت ہے۔

توضیح۔ جب کوئی جائداد کسی زمین یا اولاد
کفالت کے تحت بیع کی جائے تو اُس زمین یا کفالت
کی بابت جو رسم غیر مودی ہو مع اُس کے سود کے
زر زمین کا جو تصور ہوگی۔

مگر شرط یہ ہے کہ جب کوئی ایسی جائداد
جو کسی زمین کے تابع ہو زمین کے حق میں منتقل کی
جائے تو وہ رسوم واجب الادا میں سے اُس
رسوم کے منہا کرنے کا متحق ہوگا جو اس زمین کی
بابت سابق میں ادا کی جا چکی ہو

ILLUSTRATIONS.

(1) A owes B Rs. 1,000. A sells his property to B, the consideration of sale being Rs. 500 and the release of the previous debt of Rs. 1,000. Stamp duty shall be calculated on Rs. 1500.

(2) A sells his property to B for Rs. 500. The property is subject to a previous mortgage to C for Rs. 1,000 and Rs. 200 are payable towards interest. Stamp duty shall be calculated on Rs. 1,700.

(3) A mortgages his house of the value of ten thousand rupees with B for five thousand rupees. B afterwards buys the house from A. An *advalorem* duty on ten thousand rupees less the duty already paid for the mortgage shall be payable on the sale deed.

تمثیلات

(۱) زید پر بکر کا اس... قرضہ ہے۔ زید بکر کے حق میں اپنی جائیداد بیع کرتا ہے اور بیع کا بدلہ سماء اور سابقہ اس... قرضہ کی بے باقی ہے۔ رسوم اسٹامپ اس... پر محسوب ہوگی۔

(۲)۔ زید اپنی جائیداد بکر کے ہاتھ سماء میں بیع کرتا ہے۔ اس جائیداد پر خالد کا اس... کا سابقہ رہن ہے۔ اور سود کی بابت مبلغ ۲۰۰ واجب الادا ہیں رسوم اسٹامپ اس... پر محسوب ہوگی۔

(۳)۔ زید اپنا دس ہزار کی مالیت کا مکان بکر کے پاس پانچ ہزار میں رہن رکھتا ہے اس کے بعد بکر اس مکان کو زید سے خرید لیتا ہے۔ بیع نامہ پر... دس ہزار کی رقم کے لحاظ سے رسوم واجب الادا ہوگی لیکن اس میں سے وہ رسوم منہا کی جائے گی جو رہن کی بابت سابق میں ادا ہو چکی ہے۔

Stamp [1331 F: HYD. ACT IV
(Translation)

23. Where an instrument is executed for the purpose that any sum be paid annually or at the prescribed time or where the consideration for a conveyance is a sum payable annually or at a prescribed time, the valuation shall, for the purposes of this Act, be made in the following manner :—

(a) where the sum is payable for a definite period and the total amount to be paid can be ascertained on such total amount;

(b) where the sum is payable in perpetuity or for an indefinite period not terminable at the death of any person who is alive at the date of the instrument or conveyance, on the total amount which, according to the terms of the instrument or conveyance, is payable during the period of twenty years from the date on which the amount for the first time becomes due.

قانون اسٹامپ - نشان (۴)، ۱۳۳۱ء
سالیانہ وغیرہ کی صورت میں دفعہ ۲۳ - جب
تعیین مالیت - کوئی دستاویز اس
غرض سے تکمیل کی جائے کہ کوئی رستم سالانہ یا وقت
مقررہ پر ادا کی جائے گی یا جب کسی دستاویز
انتقال کا بدلہ ایسی رستم ہو جو سالانہ یا وقت مقررہ
پر قابل ادائیگی ہو تو قانون ہذا کی اغراض کیلئے
تعیین مالیت بطریق ذیل کیا جائے گا :-

(الف) - جب رقم ایک معین مدت
کے لئے ادا شدنی ہو اور کل رقم جو ادا ہوگی
اُس کا تعین ہو سکتا ہو ایسی مجموعی رستم کے لحاظ سے۔

(ب) - جب رستم دو ما یا غیر معین
مدت تک ادا شدنی ہو جو مدت کسی ایسے
شخص کی موت پر ختم نہ ہونے والی ہو جو تاریخ
دستاویز یا دستاویز انتقال پر وجود میں آچکا
ہو۔ اُس مجموعی رستم کے لحاظ سے جو دستاویز یا
انتقال کی شرائط کے لحاظ سے اول مرتبہ رستم
واجب الادا ہونے کی تاریخ سے بیس سال کی
مدت تک ادا شدنی ہو۔

(Translation)

(c) where the sum is payable for an indefinite period terminable at the death of any person who is alive at the date of instrument or conveyance on the total amount which is payable during the period of twelve years from the date on which the amount for the first time becomes due.

24. Where the instrument is such that ad valorem duty is payable thereon and the amount or value of such subject matter cannot be ascertained at the date of execution or first execution of such instrument, nothing shall be claimable under such instrument more than the amount or value for which, if determined in such instrument, the stamp actually used on such instrument would have been sufficient:

Stamp duty where value of subject matter of instrument is indeterminate.

Provided that when a mine in which royalty or a share of the produce thereof is payable as rent or part of the

قانون اسٹامپ - نشان (۴) ۱۳۳۱ ف

(ج)۔ جب رقم غیر معین مدت تک ادا شدنی ہو جو مدت کسی ایسے شخص کی موت پر ختم ہونے والی ہو جو تاریخ دستاویز یا زیادتاویز انتقال پر وجود میں آچکا ہو۔ اس مجموعی رستم کے لحاظ سے جو اول مرتبہ رستم واجب الادا ہونے کی تاریخ سے بارہ سال کی مدت تک ادا شدنی ہو۔

رسوم اسٹامپ جب ختم مندرجہ دستاویز کی مالیت غیر معین ہو۔

کے لحاظ سے ایسی ہو کہ اس پر رسوم ختم مندرجہ دستاویز کی رقم یا مالیت کے لحاظ سے واجب الادا ہو اور ختم مذکور کی رستم یا مالیت کا تین دستاویز مذکور کی تکمیل یا تکمیل اول کے وقت نہ ہو سکتا ہو تو ایسی دستاویز کی بنا پر اس سے زیادہ رقم یا مالیت کا دعویٰ نہ ہو سکے گا جس کا اس دستاویز میں تعین کئے جانے کی صورت میں اوہ اسٹامپ کافی ہوتا جو اس دستاویز پر فی الواقع استعمال کیا گیا ہے۔

مگر شرط یہ ہے کہ جب کسی معدن کا اجارہ دیا گیا ہو جس میں حق شاہی یا پیداوار معدن کا

Stamp [1331 F : HYD. ACT IV
(Translation)

rent, is leased out, it shall be sufficient to have estimated such royalty or the value of the share, for the purposes of stamp duty, in the following manner :—

(a) when the lease has been granted by the Government the royalty or value of the share payable to the Government shall be determined by the Taluqdar after considering all the circumstances ; and the stamp duty shall be used accordingly ;

(b) when the lease has been granted by any other person it shall be determined at twenty thousand rupees a year; and the whole amount of such royalty or share, whatever the amount may be, shall be claimable:

Provided also that, where proceedings have been taken in respect of an instrument under sections 29 and 39, the amount certified by the Taluqdar shall be deemed to be the stamp actually used at the date of execution of the instrument.

قانون اسٹامپ - نشان (۳۳) سٹامپ

کوئی حصہ بطور کرایہ یا جوہر دیکھایا یا ادائیگی ہو تو
رسوم اسٹامپ کی اغراض کے لئے اس حق شاہی
یا حصہ کی مالیت کا حسب طریق ذیل اندازہ کیا جانا
کافی ہوگا :-

(الف)۔ جب اجارہ سرکار عالی کی

جانب سے دیا گیا ہو تو حق شاہی یا حصہ کی مالیت
کا تعین جو سرکار عالی کو واجب الوصول ہوگا جملہ
حالات پر غور کرنے کے بعد تعلقدار کرے گا اور
اُس کے لحاظ سے رسوم اسٹامپ استعمال کیا جائیگا۔

(ب)۔ جب اجارہ کسی اور شخص نے

دیا ہو تو اُس کا تعین عیسائیس نہرا رتو
سالانہ کے لحاظ سے کیا جائے گا۔ اور اُس حق شاہی
یا حصہ کی کامل رسم کی بابت دعویٰ کیا جاسکے گا خواہ
اُس کی مقدار کچھ ہی ہو۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ جب
کسی دستاویز کے متعلق کارروائی حسب فوہ ۲۹
اور ۳۹ کی گئی ہو تو جس رسم کی تصدیق تعلقدار
نے کی ہو اس کے متعلق متصور ہوگا کہ دستاویز کی
تعمیل کی تاریخ پر وہ اسٹامپ فی الواقع استعمال
کیا گیا ہے۔

(Translation)

25. *[(1) The consideration, if any, and also other facts and circumstances affecting the stamp duty or the amount thereof shall be fully and truly set forth in an instrument.]

Facts affecting stamp duty to be set forth in instrument.

†[(2) Where an instrument is produced in a Court and it does not contain the matters mentioned in subsection (1) or the Court doubts their correctness, the person producing the instrument shall be directed to state or correct such matters by a petition and, an enquiry if necessary, shall also be made in this behalf and in view of the result thereof the amount of the duty payable shall be determined. If he does not pay the duty with ten times thereof within such period as may be fixed by the Court for this purpose, the instrument shall be impounded under section 31 and sent to the Taluqdar of the district concerned and a copy of the result of the enquiry shall be forwarded to the Inspector General of Stamps so that he may, if necessary, deal with it under section 60 or section 62.]

*Amended by Act No. IV of 1346 F.

†Amended by Act No. XIII of 1354 F.

قانون اسٹامپ - نشان (۴) ۱۳۳۱ء

واقعات جو رسوم اسٹامپ پر متعلقہ ہوں اور وقوعہ ۲۵۔
ان کی صراحت دستاویز میں کی جانی چاہئے۔
[۱]۔ ہر دستاویز میں اس کا بدل

(اگر کوئی ہو) اور نیز اور واقعات اور حالات جو رسوم اسٹامپ یا اس کی مقدار پر متعلق ہو سکتے ہیں بلا کم و کاست اور صحیح صحیح درج کئے جائیں گے۔

[۲]۔ جب کوئی دستاویز عدالت میں

پیش ہو اور اس میں امور متذکرہ ضمن (۱) درج نہ ہوں یا عدالت کو اس کی صحت میں شبہ ہو تو پیش کنندہ دستاویز کو اس امور کا اظہار یا اس کی تصحیح بذریعہ درخواست کر دینے کا حکم دیا جائے گا اور اگر ضرورت معلوم ہو تو اس بارہ میں تحقیقات بھی کی جائے گی۔ اور اس کے نتیجے کے لحاظ سے واجب الادا رسوم کی تعداد کا تعین کیا جائے گا۔

اور اگر وہ ایسی مدت کے اندر جو عدالت اس غرض کے لئے مقرر کرے اس قدر رسوم مع وہ چند ادا نہ کرے تو دستاویز حسب دفعہ ۳۱ ضبط کر کے تعلقدار ضلع متعلقہ کے پاس بھیج دی جائے گی

اور نتیجہ تحقیقات کی نقل انسپیکٹر جنرل اسٹامپ کے

لے۔ ترمیم بموجب قانون نشان (۴) ۱۳۳۱ء
قانون نشان (۱۳) ۱۳۵۴ء

(Translation)

*[Explanation:—For the purposes of this section "Court" shall include all such persons as are authorised to receive evidence by any law or with the consent of the parties.]

26. (1) Where a contract has been made for the sale of a property, for only one consideration for the whole property, and separate parts of such property are transferred to the purchaser by different instruments, the consideration shall be apportioned in such manner as the parties think fit:

Provided that a distinct consideration for each part shall be set forth in the conveyance and ad valorem duty shall be payable on such conveyance according to consideration contained in the instrument.

*Amended by Act No. V of 1350 F.

تانون اسٹامپ۔ نشان (۴) ۱۳۳۱ء

پاش روانہ کی جائے گی تاکہ وہ بصورت ضرورت
حسب دفعہ ۶۰ یا دفعہ ۶۲ کارروائی کر سکے۔

[توضیح۔ دفعہ ہذا کے اغراض کے لئے
"عدالت" میں وہ جج یا ججین خاص داخل ہونگے جو
کسی قانون کی رو سے یا یہ رضامندی فریقین
شہادت لینے کے مجاز ہوں۔]

بعض قسم کی دستاویزات انتقال | دفعہ ۲۶ (۱)۔
پر رسوم کی ادائیگی متعلق ہدایات۔
جب کسی جائداد کے
بیع کا معاہدہ ہوا ہو اور کل جائداد کا ایک ہی بدل
ہو اور اس جائداد کے مختلف حصص مختلف دستاویزات
کی رو سے مشتری کے حق میں منتقل کئے جائیں تو بدل
کی تقسیم رسی اس طریقہ سے کی جائے گی جو
فریقین مناسب خیال کریں

مگر شرط یہ ہے کہ بیع نامہ میں ہر حصہ کے لئے
علحدہ علیحدہ بدل درج کیا جائے گا اور اس بیع نامہ
پر بدل مندرجہ دستاویز کے لحاظ سے رسوم اسٹامپ
بلحاظ مالیت واجب الادا ہوگا۔

(2) where a contract has been made for the sale of a property for one consideration, by two or more persons jointly, or by one person for himself and others, or wholly for other persons and the property is transferred in parts by separate instruments to the persons by whom or for whose benefit each part was purchased, for distinct part of the consideration, ad valorem duty shall be payable on the conveyance in respect of the part of the consideration contained therein.

(3) Where a person having contracted for the purchase of any property, but before having a sale deed executed contracts to sell that property to any other person and the property is in consequence of that contract transferred immediately to such other person an ad valorem duty shall be payable on the sale deed in respect of the consideration as agreed upon between the first purchaser and the second purchaser.

قانون اسٹامپ۔ نشان (۲) سٹامپ

(۲)۔ جب دو یا زیادہ اشخاص سے بالاشتراک یا ایک شخص سے اُس کے اور دوسرے اشخاص کے لئے یا کلاً دوسرے اشخاص کیلئے کسی جائداد کے ایک ہی بدل کی بابت بیع کا معاہدہ ہوا ہو اور علیحدہ علیحدہ دستاویزات کے ذریعہ سے ہر شخص کے حق میں جس نے یا جس کے فائدے کے لئے ہر حصہ خرید گیا ہو بدل کے علیحدہ جز کی بابت وہ حصہ منتقل کیا جائے تو ہر بیع پر بدل کے اُس جز کی مالیت کے لحاظ سے جو اُس میں درج ہو رسوم واجب الادا ہوگی۔

(۳)۔ جب کسی شخص نے کسی جائداد کے خریدنے کا معاہدہ کیا ہو لیکن بیعنامہ کی تکمیل کے قبل اُس جائداد کو کسی دوسرے شخص کے حق میں بیع کرنے کا معاہدہ کرے اور اس معاہدہ کی بنا پر جائداد فوراً اُس دوسرے شخص کے حق میں منتقل کی جائے تو دستاویز انتقال پر اس بدل کی مالیت کے لحاظ سے رسوم واجب الادا ہوگی جو خریدار اول اور خریدار ثانی کے مابین قرار پایا ہو۔

(4) Where a person having contracted for the purchase of any property, but before having a sale deed executed contracts to sell the whole property or any part thereof to any other person or persons, and the different parts of the property are in consequence transferred by the original seller to different persons, an ad valorem duty shall be payable on each such sale deed executed in favour of the second purchaser, in respect of the consideration paid by him, without regard to the value of the original consideration; and the duty on the sale deed of the residue of the property, if any, executed in favour of the original seller shall be payable with regard to the difference between the consideration of the original seller and the aggregate of the consideration of the subsequent purchasers:

Provided that the duty on the last-mentioned sale deed shall in no case be less than one rupee.

(5) Where a subsequent purchaser having a sale deed executed by the person whose interests are purchased by him and paid

تاؤن اسٹامپ - نشان (۴) ۱۳۳۱ھ

(۴) - جب کسی شخص نے کسی جائیداد کے

خریدنے کا معاہدہ کیا ہو لیکن بیعنامہ کی تکمیل کے قبل وہ اُس کل جائیداد کو یا اُس کے کسی حصہ کو کسی دوسرے

شخص یا اشخاص کے حق میں بیع کرنے کا معاہدہ

کرے اور اس کی وجہ سے اصل بائع اُس جائیداد کے مختلف حصص مختلف اشخاص کے حق میں منتقل کرے

تو ہر بیعنامہ پر جو خریدار تانی کے حق میں تکمیل

کیا جائے بلا لحاظ اصل بدل کی مالیت کے اس

مالیت کے لحاظ سے رسوم واجب الادا ہوں گی

جو اُس بدل کی ہو جو اُس نے دیا ہو اور جائیداد کے

باقی ماندہ حصہ کے (اگر کوئی ہو) بیعنامہ پر جو اصل

بائع کے حق میں تکمیل کیا جائے اُس تفاوت کے

لحاظ سے رسوم واجب الادا ہوں گی جو اصل بائع

کے بدل اور خریداران مابعد کے مجموعی بدل

کی مالیت میں ہو۔

مگر شرط یہ ہے کہ آخر الذکر بیعنامہ پر رسوم

کسی حالت میں عرصہ سے کم نہ ہوں گی۔

(۵) - جب خریدار مابعد نے اس شخص

سے بیع نامہ کی تکمیل کرائی ہو جس کے حقوق اُس نے

(Translation)

an ad valorem duty in respect of such sale deed gets a sale deed of the same property executed by the original seller in his favour, an ad valorem duty shall be payable on the sale deed with regard to the amount of consideration obtained by the original seller, but where such duty exceeds five rupees, a duty of five rupees shall be payable.

E. Duties by whom payable.

27. Unless there is an agreement to the contrary between the parties, the liability for payment of the stamp-duty shall be as follows:—

Duties by whom payable.

(a) on the instruments described in the following articles of the Schedule:—

Article (2) Administration Bond,

Article (6) Agreement relating to Deposit of Title-deeds, or pledge,

Article (9) Bill of exchange,

Article (10) Bond,

تائون اسٹامپ۔ فنان (۳) ۳۳۱

خرید سے ہوں اور اس بیع نامہ پر بدل کی مالیت کے لحاظ سے رسوم ادا کر دی ہو اور اس کے بعد وہ اصل بائع سے اسی جائداد کے متعلق اپنے حق میں بیع نامہ کی تکمیل کرے تو اس بیع نامہ پر اس بدل کی مالیت کے لحاظ سے رسوم واجب الادا ہوگی جو اصل بائع نے حاصل کیا ہو۔ لیکن اگر اس رسوم کی مقدار وہ سے زائد ہو تو وہ رسوم واجب الادا ہوگی۔

(۵)۔ رسوم کس کے ذمہ واجب الادا ہے۔

رسوم کس کے ذمہ واجب الادا ہے۔ اور قوع ۲۷۔ بجز اسکے کہ فریقین میں کوئی قرار داد اس کے خلاف ہو رسوم اسٹامپ کی ادائیگی کی ذمہ داری بطریق ذیل ہوگی۔

(الف)۔ ان دستاویزات پر جن کی فہرست

کی مدات ذیل میں صراحت ہے۔

مد (۲) اقرار نامہ اہتمام ترکہ۔

مد (۶) اقرار نامہ متعلق مکفولی دستاویزات

حقیقت یا گرو۔

مد (۹) بل آف ایکسچینج۔

مد (۱۰) تمک۔

Stamp [1331 F: HYD. ACT IV
(Translation)

Article (18) Debenture,

Article (21) Further charge,

Article (23) Indemnity Bond,

Article (28) Mortgage-Deed,

Article (35) Promissory Note,

Article (39) Release,

Article (40) Security-Bond or
Mortgage-Deed,

Article (41) Settlement,

Article (43) (a) Transfer of shares
in a company or
body corporate,

Article (43) (b) Transfer of de-
bentures, being
marketable secu-
rities. whether
they are liable to
duty or not,

Article (43) (c) Transfer of any
interest secured
by executing a
bond, mortgage-
deed or policy of
insurance -

by the person executing such instru-
ments;

(b) in the case of a policy of
insurance *[other than fire insurance] by
the person effecting the insurance ;

*Added by Regulation No. XIV of 1359 F.

قانون اسٹامپ - نشان (۴) ۱۳۳۱ء

مد (۱۸) ڈیبنچر -

مد (۲۱) دستاویز کفالت مزید -

مد (۲۳) ابرار نامہ -

مد (۲۸) رہن نامہ -

مد (۳۵) پرا میسری نوٹ -

مد (۳۹) دستاویز دست برداری -

مد (۴۰) ضمانت نامہ یا رہن نامہ -

مد (۴۱) تملیک نامہ -

مد (۴۳) (الف) انتقال حصص متعلقہ کمپنی یا
جماعت سند یافتہ -

مد (۴۳) (ب) انتقال ڈیبنچر جو قابل خرید
و فروخت کفالت ہوں خواہ ان پر رسوم
واجب الاخذ ہو یا نہ ہو -

مد (۴۳) (ج) انتقال کسی حقیت کا جواز
روئے تحریر متک یا رہن نامہ یا دستاویز بیمہ کے
مستحکم کی گئی ہو -

اس شخص کی جانب سے جو دستاویزات
مذکورہ کی تکمیل کرے -

(ب) دستاویز بیمہ
*[other than fire insurance]

کی صورت میں اس شخص کی جانب سے جو ہر کرائے

*Added by Regulation No. XIV of 1359 F.

(Translation)

(c) in the case of a conveyance (including reconveyance of mortgaged property) by the transferee; and in the case of a lease or agreement to lease by the person to whom a lease is granted or a lease is promised to be granted;

(d) in the case of a counterpart of a lease by the lessor;

(e) in the case of an instrument of exchange by the parties in equal shares;

(f) in the case of a certificate of sale by the purchaser of the property to which the certificate relates ;

(g) in the case of an instrument of partition by each party in proportion to its share in the whole property partitioned, or, when the partition is made under an award of private arbitration, according to the value of the property to be received by each party by the arbitration award except when otherwise directed by the arbitration award.

قانون اسٹامپ نشان (۲۰۱۳) آر ۱۳۳۱

*(bb) in the case of a policy of fire-insurance by the person issuing the policy;

(ج)۔ بیعنامہ کی صورت میں (جس میں

جائداد مرہونہ کا انتقال کر رہا ہے)۔

منتقل شدہ کی جانب سے اجارہ یا اقرار نامہ اجارہ

کی صورت میں۔ اس شخص کی جانب سے جس کے

حق میں اجارہ دیا جائے یا اجارہ دینے کا وعدہ

کیا جائے۔

(د)۔ ثنقی اجارہ کی صورت میں اجارہ

دہندہ کی جانب سے۔

(ه)۔ دستاویز مبادلہ اشیاء کی صورت

میں فریقین کی جانب سے کچھن مادی۔

(و)۔ سند نیلام کی صورت میں۔ اس

جائداد کے خریدار کی جانب سے جس سے سند

کا تعلق ہو۔

(ز)۔ تقسیم نامہ کی صورت میں۔ ہر فریق

کی جانب سے اس نسبت سے جو کل جائداد میں

کے ساتھ اس کے حصہ کی ہو یا جب تقسیم فیصلہ تالشی

28. When a person receives any money exceeding twenty rupees or a bill of exchange, cheque or promissory note for an amount exceeding twenty rupees or receives in full or part payment of a debt any movable property exceeding twenty rupees in value, he shall give a duly stamped receipt for the same when a receipt is duly demanded by a person delivering money, bill of exchange, cheque, promissory note or movable property.

Obligation to give receipt in certain cases.

CHAPTER III.

DETERMINATION OF STAMP DUTIES.

29. (1) When any instrument, whether executed or not and whether stamped or not, is produced before the Taluqdar and the person

Determination of stamp duties.

قانون اسٹامپ - فنان (۱۹۱۱) سیکشن ۲۸

خانگی کی بنا پر عمل میں آئی ہو تو اس جائیداد کی مالیت کے لحاظ سے جو فیصلہ ثالثی کی بنا پر ہر قرین کو پہنچنے والی ہو بجز اس کے کہ فیصلہ ثالثی میں اس کے خلاف حکم ہو۔

بعض صورتوں میں رسید دینے کی ذمہ داری۔ دفعہ ۲۸ - جب کسی شخص کو عرصہ بیس روپیہ سے زائد رقم وصول ہو یا عرصہ بیس روپیہ سے زائد رقم کی بابت کوئی بل آتے اس پہنچ چک یا پیرا میسری نوٹ وصول ہو۔ یا کسی قرضہ کی کلا یا جزا ادائیگی میں کوئی جائیداد منقولہ جس کی مالیت بیس روپیہ سے زائد ہو وصول ہو تو وہ اسکی بابت حسب ضابطہ اسٹامپ شدہ رسید دینا۔ جب کہ رقم یا بل آتے اس پہنچ چک یا پیرا میسری نوٹ یا جائیداد منقولہ حوالہ کرنے والا شخص حسب ضابطہ رسید طلب کرے۔

باب سوم

تشخیص اسٹامپ

تشخیص اسٹامپ - دفعہ ۲۹ (۱) - جب کوئی

(Translation)

producing it applies to have the opinion of the Taluqdar as to the amount of duty, if any, payable thereon and pays a fee of such amount (not exceeding five rupees and not less than eight annas) as the Taluqdar may direct, the Taluqdar shall determine the amount of duty, if any, which, in his opinion, is payable on that instrument.

(2) For carrying out this purpose the Taluqdar may require the person presenting it to produce an abstract of the instrument, and to prove by such affidavit or other evidence as he may deem necessary that all the facts and circumstances affecting the duty payable or the amount thereof are fully and truly set forth in the instrument and may refuse to proceed upon such application until abstract and evidence have been produced accordingly:

تازن اسٹامپ۔ نشان (۴) اسٹامپ

دستاویز خواہ اس کی تکمیل ہو یا نہ ہو یا نہ ہوئی ہو
اور خواہ اس پر اسٹامپ ثبت ہو یا نہ ہو
تعلقدار کے روبرو پیش کیا جائے اور پیش کنندہ
تعلقدار کی رائے اس امر کے متعلق دریافت
کرنے کی درخواست کرے کہ اس دستاویز پر
کس قدر رسوم (اگر کوئی ہو) واجب الادا ہے
اور درخواست کے ساتھ اس قدر فیس (جو حصے
زائد اور ۸/ سے کم نہ ہو) داخل کرے جس کی
تعلقدار ہدایت کرے تو تعلقدار اس امر کا تعین
کرے گا کہ اس کی رائے میں اس دستاویز پر
کس قدر رسوم (اگر کوئی ہو) واجب الادا
ہے۔

(۴)۔ اس غرض کی تکمیل کے لئے تعلقدار
پیش کنندہ کو حکم دے سکتا ہے کہ دستاویز مذکورہ کا
خلاصہ پیش کیا جائے۔ اور حلف نامہ سے یا اور
شہادت سے جو وہ ضروری خیال کرے یہ ثابت کیا
جائے کہ کل واقعات اور حالات جو رسوم واجب
الادایا اس کی مقدار پر موثر ہو سکتے ہیں اس دستاویز
میں بلا کم و کاست صحیح صحیح درج کئے گئے ہیں اور
اس درخواست کے متعلق اس وقت تک کوئی رائے

(Translation)

Provided that, —

(a) the evidence produced in pursuance of the direction referred to in this section shall not be used against any person in any civil proceeding, except in the proceedings as to the amount of duty which is payable on the instrument to which the evidence relates;

(b) every person who has produced the aforesaid evidence shall, on payment of the full duty payable on the instrument, be relieved from the penalty which he may have incurred under this Act by reason of omission to state fully and truly in the aforesaid instrument the facts and circumstances relating to such evidence.

30. (1) When an instrument produced before the Taluqdar under Section 29 is, in his opinion, liable for the payment of duty, and—

Certificate
by Taluq-
dar.

قانون اسٹامپ۔ نشان (۲) سٹامپ

کرنے سے انکار کر سکتا ہے جب تک حکم کے موافق غلط

اور شہادت پیش نہ ہو۔

مگر شرط یہ ہے کہ

(الف)۔ حکم متذکرہ دفعہ ہذا کی تعمیل میں

جو شہادت پیش کی جائے وہ کسی شخص کے مقابلہ

میں کسی دیوانی کارروائی میں استعمال نہ کی جاسکے گی۔

بجز اس کارروائی کے جو اس امر کے متعلق ہو کہ اس

دستاویز پر کس قدر رسوم واجب الادا ہے جس

سے اس شہادت کا تعلق ہے۔

(ب)۔ ہر شخص جس نے شہادت متذکرہ

صدر پیش کی ہو اس کا مل رسوم کے ادا کرنے پر

جو اس دستاویز پر واجب الادا ہو اس تاوان

سے سبکدوش ہو جائے گا جو اس پر قانون ہذا کی

رو سے اس وجہ سے عائد ہو سکتا ہو کہ اس نے

دستاویز متذکرہ صدر میں وہ واقعات اور حالات

بلا کم و کاست اور صحیح صحیح درج نہیں کئے ہیں جن کا

اس شہادت سے تعلق ہے۔

تعلق دار کا صداقت نامہ۔ دفعہ ۳۰ (۱) جب

دستاویز حسب دفعہ ۲۹ تعلق دار کے روبرو

پیش ہوئی ہو اور وہ اس کی رائے میں قابل ادائیگی

(Translation)

(a) the Taluqdar is of the opinion that it is duly stamped, or

(b) the duty determined by the Taluqdar in accordance with section 29 or such sum as is necessary to make up the payable duty so determined has been paid,

the Taluqdar shall certify by endorsement on such instrument that the full duty (stating the amount) payable has been paid.

(2) When such instrument is, in the opinion of the Taluqdar, not liable for duty, he shall certify in manner aforesaid that such instrument is not liable for duty.

(3) Any instrument upon which an endorsement has been made under this section, shall accordingly be deemed to be duly stamped, or not liable for payment of duty; and if liable for payment of duty, shall be admitted in evidence or otherwise, and may be acted upon or registered as if it had been originally duly stamped :

قانون اسٹامپ - نشان (۴) ۳۳۱

رسوم ہو - اور

(الف) - تعلقدار کی یہ رائے ہو کہ وہ حسب

ضابطہ اسٹامپ شدہ ہے - یا

(ب) - تعلقدار نے حسب متشاور رقم ۲۹

جو رسوم تخصیص کی ہو وہ ادا کی گئی ہو یا اس قدر رسم

ادا کی گئی ہو جو مشخصہ رسوم واجبہ الاوائی تکمیل

کے لئے ضروری ہو

تو تعلقدار بذریعہ عبارت ظہری مندرجہ ذیل

مذکورہ اس امر کی تصدیق کرے گا کہ اس کی بابت کامل

رسوم (بہ صراحت رقم) جو واجب الاوائی ہے ادا

کی گئی ہے -

(۲) - جب تعلقدار کی رائے میں دستاویز

مذکورہ قابل ادائیگی رسوم نہ ہو تو وہ حسب طریقہ مذکورہ

سداً اس امر کی تصدیق کرے گا کہ دستاویز مذکورہ

قابل ادائیگی رسوم نہیں ہے -

(۳) - ہر دستاویز جس پر حسب دفعہ ہذا

عبارت ظہری لکھی گئی ہو اس کے لحاظ سے حسب

ضابطہ اسٹامپ شدہ یا ناقابل ادائیگی رسوم متصور

ہو گی اور اگر وہ قابل ادائیگی رسوم ہو تو وہ اسی طرح

شہادت میں یا اور طور پر قبول کی جائے گی اور اس پر

(Translation)

Provided that nothing in this section shall authorise the Taluqdar to make an endorsement —

(a) when an instrument is executed or first executed in H.E.H. the Nizam's Dominions and produced before him after two months from the date of such execution or first execution;

(b) when an instrument is executed or first executed out of H.E.H. the Nizam's Dominions and produced before him after three months from the date when it was first received in H.E.H. the Nizam's Dominions; or

(c) when a duty of *[one and a half annas or one anna] is payable on an instrument or it is a bill of exchange or promissory note when produced before him after the execution is not duly stamped.

تاون اسٹامپ۔ نشان (دہ) ۱۳۳۱ ف

عمل کیا جاسکے گا یا اس کی رجسٹری کی جا سکے گی گویا کہ وہ ابتداً حسب ضابطہ اسٹامپ شدہ تھی۔

مگر شرط یہ ہے کہ دفعہ ہذا کے کسی مضمون سے تعلق دار عبارت ظہری لکھنے کا مجاز نہ ہوگا۔

(الف)۔ جب کہ دستاویز کی تکمیل یا تکمیل اول ممالک محروسہ سرکار عالی میں ہوئی ہو اور ایسی تکمیل یا تکمیل اول کی تاریخ سے دو مہینے کے بعد وہ اس کے رو برو پیش ہوئی ہو۔

(ب)۔ جب کہ دستاویز کی تکمیل یا تکمیل اول بیرون ممالک محروسہ سرکار عالی ہوئی ہو اور اس کے ممالک محروسہ سرکار عالی میں اول مرتبہ موصول ہونے کی تاریخ سے تین مہینے کے بعد وہ اس کے رو برو پیش ہوئی ہو۔ یا

(ج)۔ جب کہ دستاویز پر
[ONE AND A HALF ANNA OR
ONE ANNA.]
کا رسوم واجب الادا ہو یا وہ بل آفت آکس بھیج

*Substituted by Regulation No. XIV of 1359 F.

*Substituted by Regulation No. XIV of 1359 F.

CHAPTER IV.

INSTRUMENTS NOT DULY
STAMPED.

31. (1) Every person having by law or consent of parties authority to receive evidence and every person in charge of a Government office, except an officer of police before whom any instrument, liable in his opinion for duty, is produced or comes in the performance of his functions, shall, if it appears to him that it is not duly stamped, impound the same.

(2) For that purpose, every person before whom any instrument liable for duty is produced or comes, shall examine it, in order to ascertain

قانون اسٹامپ - نشان (۴) ۱۳۳۱ء
یا پرائیمری نوٹ ہو اور جب وہ تکمیل کے بعد
اُس کے روبرو پیش ہوا ہو تو حسب ضابطہ اسٹامپ
شدہ نہ ہو۔

باجب روم

دستاویزات جو حسب رطہ

اسٹامپ شدہ و نہ ہوں۔

دستاویز کا معائنہ اور ان کا ضابطہ (۱)۔
ہر شخص جو قانوناً یا یہ رضامندی فریقین شہادت لینے
کا اختیار رکھتا ہو اور سوائے عہدہ دار کو توالی کے
ہر سرکاری دفتر کا افسر مگر ان جب اُس کے روبرو
کوئی ایسی دستاویز جو اس کی رائے میں قابل
ادائیگی رسوم ہو پیش کی جائے یا اُس کے فرائض
کی انجام دہی میں اس کے سامنے آئے اور یہ
معلوم ہو کہ وہ حسب ضابطہ اسٹامپ شدہ نہیں
ہے تو وہ اُس کو ضبط کرے گا۔

(۲)۔ اس غرض کے لئے ایسا ہر شخص
جس کے روبرو کوئی دستاویز قابل ادائیگی رسوم

Stamp

[1331 F : HYD. ACT IV
(Translation)

whether the instrument is stamped with a stamp of the value and description required by the law in force in H.E.H. the Nizam's Dominions at the time of execution or first execution of such instrument:

Provided that,—

(a) nothing contained in this section shall require any Magistrate or Judge of a Criminal Court to examine or impound if he does not think fit so to do, any instrument coming before him in any proceeding other than a proceeding under Chapter XI and Chapter XXXI of the Code of Criminal Procedure ;

(b) in the Judicial Committee and the High Court, the Registrar may also pass order under this section for examining or impounding any instrument ;

(c) for the purposes of this Section, in case of doubt the Govern-

قانون اسٹامپ - نشان دہی، اس کے لئے
پیش ہو یا اس کے سامنے آتے اس امر کا تعین
کرنے کے لئے اس کا معائنہ کر کے گا کہ آیا اس دستاویز
کی تکمیل یا تکمیل اول کے وقت اس پر اس قدر
مالیت کا اور اس قسم کا اسٹامپ ثبت تھا یا
نہیں جو قانون نافذہ ممالک محدودہ سرکار عالی
کی رو سے لازمی ہے -

مگر بشرط یہ ہے کہ

(الف) - دفعہ ہذا کے کسی حکم کی وجہ سے
یہ لازمی نہ ہو گا کہ کوئی ناظم فوجداری یا حاکم عدالت
فوجداری کسی ایسی دستاویز کا معائنہ یا اس کو
ضبط کرے جو اس کے رویہ و مجموعہ ضابطہ فوجداری
کے باب ۱۱ اور باب ۳۱ کی کارروائی کے سوا
کسی اور کارروائی میں آئی ہو جب کہ وہ معائنہ
یا ضبطی کا حکم دینا مناسب نہ خیال کرے -

(ب) - جو رجسٹری اور بین عالیہ
عدالت میں کسی دستاویز کے معائنہ اور ضبطی کا
حکم حسب دفعہ ہذا رجسٹرار بھی صادر کر سکتے گا -

(۳) - دفعہ ہذا کی اغراض کے لئے شبہ کی

(Translation)

ment may, determine what offices shall be deemed to be Government offices and what officer shall be deemed to be officer-in-charge.

32. Where any receipt on which a duty of one anna is payable is produced before any Government officer unstamped in the course of the audit of

Government accounts, such officer may, in his discretion, instead of impounding the instrument, require a duly stamped receipt to be substituted therefor.

33. * [(1)] No person having by law or consent of parties authority to receive evidence, shall admit in evidence an instrument on which duty is payable and no such person or

Government servant shall act upon, register or authenticate it unless it is duly stamped :

* Amended by Act No. of 1340 F.

تاقون اسٹامپ۔ نشان (۴) اسٹامپ

صورت میں سرکار عالی اس امر کا تعین کریگی کہ کون سے دفاتر سرکاری دفاتر متصور ہوں گے اور کون سے عہدہ دار اسے متصور ہوگا۔

غیر اسٹامپ شدہ رسید کے وقوع ۳۲۔ جب کسی متعلق خاص حکم۔ سرکاری عہدہ دار کے

روبرو سرکاری حسابات کی تصفیح کے وقت کوئی ایسی رسید جس پر ارکار سوم واجب الادا ہو نہیں اسٹامپ کے پیش کی جائے تو عہدہ دار مذکور اپنی صوابدید کے موافق اس دستاویز کو ضبط کرنے کے بجائے یہ حکم دے سکتا ہے کہ اس کے بجائے حسب ضابطہ اسٹامپ شدہ رسید قائم کی جائے۔

دستاویزات جو حسب ضابطہ وقوع ۳۳۔ [۱] اسٹامپ شدہ نہ ہوں وہ کوئی شخص جو قانوناً یا ناقابل ادخال شہادت ہیں۔ برصغیر میں مذکورہ شہادت

لینے کا اختیار رکھتا ہو کسی ایسی دستاویز کو جس پر رسوم واجب الادا ہو شہادت میں قبول نہ کرے گا اور نہ کوئی ایسا شخص یا کوئی سرکاری ملازم اس پر عمل کرے گا یا اس کی رجسٹری یا تصدیق کرے گا

۳۔ ترمیم بموجب تاقون نشان اسٹامپ

(Translation)

Provided that,—

(a) any such instrument, not being an instrument on which a duty of *[one and a half annas or one anna] is payable or a bill of exchange or promissory note, shall, subject to all just exceptions, be admissible in evidence when the duty payable thereon is paid, or if the duty is insufficiently paid, when it is made up and an amount of rupees five is paid by way of a penalty or when ten times the amount of the duty payable or deficiency thereof exceeds five rupees, a sum equal to ten times the duty payable or the amount of deficiency is paid.

(b) where [any person, from whom a stamped receipt could have been demanded, has been given an unstamped receipt, and such receipt, if stamped, can be used against him, such receipt shall be used in evidence against him provided the person tendering it pays a penalty of one rupee;

قانون اسٹامپ۔ نشان (۴) ۱۳۳۱ء

بجز اس کے کہ وہ یا ضابطہ اسٹامپ شدہ ہو۔
مگر شرط یہ ہے کہ

(الف)۔ کوئی ایسی دستاویز جو ایسی نہ

* [ONE AND A HALF ANNAS OR ONE ANN.] ہو جس پر

کارسوم واجب الادا ہو یا بل آف اکس پیمنٹ یا
پروامیری نوٹ نہ ہو یا بوقت جملہ مستثنیات معقول کے
شہادت میں قبول کیا جائے گی جب کہ وہ رسوم ادا
کر دی جائے جو اس پر واجب الادا ہو یا اگر اس
پر واجب الادا رسوم سے کم رسوم ادا کی گئی ہو تو
رسوم واجب الادا کا تکمیلہ کر دیا جائے اور ہر روپیہ
بطور تادان ادا کئے جائیں یا جب کہ رسوم واجب
الادایا تعداد کسی رسوم کا وہ گونہ نہ روپیہ سے
زائد ہو تو اس قدر رسوم ادا کی جائے جو رسوم واجب
الادایا تعداد کسی رسوم کے وہ گونہ کے مساوی ہو۔

(ب)۔ جب کسی شخص نے جس سے اسٹامپ

شدہ رسید طلب کی جا سکتی ہو غیر اسٹامپ شدہ
رسید دی ہو اور وہ رسید اسٹامپ شدہ ہونے

*Substituted by Regulation No. XIV of 1359 F.

*Substituted by Regulation No. XIV of 1359 F.

(Translation)

(c) where a contract or agreement is effected by correspondence consisting of two or more letters and any one of such letters bears the stamp payable the contract or agreement shall be deemed to be duly stamped ;

(d) nothing contained in this section shall prevent the admission of any instrument in evidence in any proceeding in a Criminal Court, other than a proceeding under Chapter XI and Chapter XXXI of the Hyderabad Code of Criminal Procedure No. IV of 1313 F ;

(e) nothing contained in this section shall prevent the admission of any instrument in any Court when such instrument has been executed by or on behalf of the Government, or were it bears the certificate of the Taluqdar as provided by section 30 or any other provision of this Act.

قانون اسٹامپ۔ نشان (۴) ۱۳۱۳ء

کی صورت میں اُس کے خلاف استعمال ہو سکتی ہو تو ایسی سید
اُس کے خلاف شہادت میں استعمال کی جا سکے گی بشرطیکہ اس کا پیش
کنفرہ محکم روپیہ تا ۱۰۰۰۰ روپے۔

(ج)۔ جب کوئی معاہدہ یا عہد ایسی

مراست کے ذریعہ سے منعقد ہوا ہو جو دو یا زیادہ
چٹھیوں پر مشتمل ہو اور ان چٹھیوں میں سے کسی
ایک چٹھی پر رسوم واجب الادا ثبت ہو تو وہ
معاہدہ یا عہد حسب ضابطہ اسٹامپ شدہ
منصور ہوگا۔

(د)۔ دفعہ ہذا کا کوئی مضمون کسی

دستاویز کے کسی نوجوہ کی عدالت کی کارروائی
میں باستثناء اس کارروائی کے جو مجموعہ ضابطہ
نہداری سرکار عالی نشان (۴) ۱۳۱۳ء
کے باب ۱۱ و باب ۳۱ کی رو سے کی جائے
شہادت میں قبول کیے جانے کے مانع نہ ہوگا۔

(ه)۔ دفعہ ہذا کا کوئی مضمون کسی تاجر

کے کسی عدالت میں قبول کیے جانے کے مانع
نہ ہوگا جب ایسی دستاویز کی کاپی سرکار عالی
نے کی ہو یا سرکار عالی کی جانب سے کی گئی ہو یا

(Translation)

قانون اسٹامپ - نشان (۴) سیکشن ۳۳

جب اس پر تعلق دار کا صداقت نامہ حسب
دفعہ ۳۰ یا کسی اور حکم مندرجہ قانون ہذا کے
موافق ہو۔

[* (2) Omitted.]

34. Where an instrument has been admitted in evidence, such admission shall not, except as provided in section 59, be called in question at any stage of the same suit or proceedings on the ground that it is not duly stamped.

Instrument admitted not to be questioned.

علاقہ جاتہ پائیکارہ وغیرہ میں تاوان
کا بشکل اسٹامپ ادا ہونا۔

(۲) - [ف] -
جب دستاویز قبول کر لی جائے تو اس کے
متعلق اعتراض نہ کیا جاسکے گا۔

دستاویز شہادت میں قبول کی جا چکی ہو تو اس
کے اس طرح قبول کئے جانے کے متعلق باستناد
اس صورت کے جس کی دفعہ ۵۹ میں صراحت ہے
اس مقدمہ یا کارروائی کی کسی نوبت پر اس بنا
پر اعتراض نہ کیا جاسکے گا کہ وہ حسب ضابطہ
اسٹامپ شدہ نہیں ہے۔

35. The Government may make rules providing that where an instrument bears a stamp of sufficient amount but not of the description prescribed for the instrument, it may, on payment of the duty payable, be certified to be duly stamped, and the instrument so certified shall be deemed to have been duly stamped on the date of execution.

Admission of instruments bearing stamp of description different from that prescribed therefor.

اون دستاویزات کا قبول کیا جانا
جن پر اسٹامپ اس سے مختلف قسم کا
نبت ہو جو ان کے لئے نہیں کیا گیا ہو۔

وضع کر کے گی کہ جب کسی دستاویز پر کافی مقدار
کا اسٹامپ ثبت ہو لیکن وہ اس قسم کا نہ ہو جو
اس دستاویز کے لئے مقرر کیا گیا ہو تو رسوم

(Translation)

36. (1) When the person impounding an instrument under section 31 has by law or consent of parties authority to receive evidence and admits the instrument

Instruments impounded, how dealt with.

on payment of a penalty referred to in section 33 or of duty referred to in section 35, he shall send to the Taluqdar an authentic copy of such instrument, together with a certificate stating the amount of penalty or duty recovered in respect thereof, and such amount shall be sent to the Taluqdar or to the person appointed for this work.

(2) In any case other than the case specified in sub-section (1), the instrument impounded shall be sent to the Taluqdar in original.

قانون اسٹامپ - نشان (۴) کے تحت
راجیلا واکے داخل ہونے پر اس امر کی تصدیق کی جائے
کہ وہ دستاویز یا نفا بطر اسٹامپ ہے یا جس دستاویز پر
اس طرح تصدیق ہو جائے کہ متعلق یہ تصور ہو گا کہ وہ تازہ کار
نفا بطر اسٹامپ ہے۔
جو دستاویزات ضبط کئے جائیں ان (۱) - جب وہ
کے متعلق کس طرح عمل کیا جائے گا۔

شخص جس نے کسی دستاویز کو حسب دفعہ ۳۱
ضبط کیا ہوتا تو نایاب رہنا مندی فریقین شہادت
لینے کا مجاز ہوا اور وہ اس دستاویز کو تاوان
متذکرہ دفعہ ۳۳ یا رسوم متذکرہ دفعہ ۲۵ کے ادا
ہونے پر شہادت میں قبول کرے تو وہ تعلقدار
کے پاس دستاویز مذکور کی ایک مصدقہ نقل
مع صداقت نامہ کے بھیجے گا جس میں اس تاوان
یا رسوم کی صراحت ہوگی جو اس کے متعلق وصول
کی گئی ہے اور وہ رسم تعلقدار یا اس شخص کے
پاس بھیجی جائے گی جو اس کام کے لئے مقرر کیا
گیا ہو۔

(۲) - سوائے اس صورت کے جس کی
ضمن (۱) میں صراحت کی گئی ہے اصل دستاویز
جو ضبط کی جائے تعلقدار کے پاس بھیجی جائے گی۔

(Translation)

37. (1) When a copy of an instrument is sent to the Taluqdar under sub-section (1) of section 36 he may, if he thinks fit, refund the penalty in excess of five rupees recovered in respect of such instrument.

Taluqdar's power to refund penalty received under section 36, sub-section (1),

(2) When the instrument has been impounded only because it has been written in contravention of the provisions of section 11 and section 12, the Taluqdar may refund the whole penalty.

38. (1) When the Taluqdar impounds any instrument under section 31, or receives any instrument under sub-section (2), of section 36, not being an instrument on which a

duty of * [one and a half annas or one anna] only is payable or a bill of exchange or promissory note, he shall adopt the following procedure:

*Substituted by Regulation No. XIV of 1359 F.

قانون اسٹامپ - نشان (۳۱) - ۱۳۳۱

تعلقدار کا اختیار نسبت واپسی دفعہ ۳۱ - (۱)
 اگر تادان جو حسب دفعہ ۳۶ میں (۱)
 وصول ہوا ہو -
 یا اس حسب دفعہ ۳۶

ضمن (۱) دستاویز کی نقل بھیجی جائے تو وہ
 اگر مناسب خیالی کرے اس رقم تادان کو واپس
 کر سکے گا جو وہ روپیہ سے زائد اس دستاویز کے
 متعلق وصول کی گئی ہو۔

(۲) - جب وہ دستاویز محض اس وجہ
 سے ضبط کی گئی ہو کہ وہ دفعہ ۱۱ اور دفعہ ۱۲ کے
 احکام کے خلاف لکھی گئی ہے تو تعلقدار کل رسم
 تادان واپس کر سکے گا۔

تعلقدار کا اختیار ان دفعہ ۳۱ - (۱) جب تعلقدار
 دستاویز اسٹامپ کے
 کے متعلق جو ضبط کی گئی ہو -
 کرے یا حسب دفعہ ۳۶

ضمن (۲) کوئی دستاویز اس کو وصول ہوا اور
 * [ONE AND A HALF ANNAS OR ONE ANNA]
 ایسی دستاویز پر صرف
 کا رسوم واجب الادا نہ ہو یا وہ بل آن آفس میں
 یا پیرامیسری نوٹ نہ ہو تو وہ اس کے متعلق
 حسب طریق ذیل کارروائی کرے گا:-

*Substituted by Regulation No. XIV of 1359 F.

(a) when he is of opinion that such instrument is duly stamped or that no duty is payable thereon, he shall certify by endorsement thereon that it is duly stamped, or that no duty is payable thereon as, the case may be ;

(b) when he is of opinion that duty is payable on such instrument and it is not duly stamped, he shall require the payment of the proper duty or the amount required to make up the same together with a penalty of five rupees or if he thinks fit, he may, in respect of the penalty, direct that he shall pay an amount not exceeding ten times the amount of the proper duty or of the deficient amount thereof whether such amount is less or more than five rupees :

Provided that, when any instrument has been impounded only because it has been written in contravention of the provisions of section 11 and section 12, the Taluqdar may, if he thinks fit, remit the whole penalty mentioned in this section.

(الف)۔ جب اس کی یہ رائے ہو کہ وہ دستاویز حسب ضابطہ اسٹامپ شدہ ہے یا اس پر کوئی رسوم واجب الادا نہیں ہے تو وہ اس دستاویز پر بذریعہ عبارت ظہری تصدیق کرے گا کہ وہ حسب ضابطہ اسٹامپ شدہ ہے یا اس پر کوئی رسوم واجب الادا نہیں ہے۔ (جس کی صورت ہو)

(ب)۔ جب اس کی یہ رائے ہو کہ دستاویز مذکور پر رسوم واجب الادا ہے اور وہ حسب ضابطہ اسٹامپ شدہ نہیں ہے تو وہ حکم دے گا کہ رسوم مناسب یا اس قدر رقم جو رسوم مناسب کی تکمیل کے لئے ضروری ہو مع ضامان کے ادا کی جائے یا اگر وہ مناسب خیال کرے تو تاوان کے متعلق یہ حکم دیکھے گا کہ وہ اس قدر رسم ادا کرے جو رسوم مناسب یا کئی رسوم مناسب کے وہ گونہ سے زائد نہ ہو خواہ اسی رسم سے کم ہو یا زیادہ۔ مگر شرط یہ ہے کہ جب کوئی دستاویز محض اس وجہ سے ضبط کی گئی ہو کہ وہ دفعہ ۱۱ و دفعہ ۱۲ کے احکام کے خلاف لکھی گئی ہے تو تعلقدار اگر مناسب

(Translation)

(2) Certificate given under clause (a) of sub-section (1) shall, for the purposes of this Act, be conclusive evidence of the matters stated therein.

(3) Where an instrument has been sent to the Taluqdar under sub-section (2) of section 36, the Taluqdar shall, when he has dealt with it as provided in this section, return it to the impounding officer.

39. When any instrument on which duty is payable and not duly stamped, not being an instrument on which a duty of * [one and half anna or one anna] only is payable or a bill of exchange or promissory note, is produced by any person before the Taluqdar within one year from the date of its execution or first execution, and such person brings to the notice of the Taluqdar the fact that such instrument is not duly stamped, and expresses his willingness for the payment of the proper duty or the deficient portion of the amount thereof, and the Taluqdar is satisfied that such instrument is

*Substituted by Regulation No. XIV of 1359 F.

قانون اسٹامپ۔ نشان (۳) کے لئے

خیال کرے کل تاوان متذکرہ دفعہ ہذا معاف کر کے گا۔

(۲)۔ صداقت نامہ جو حسب ضمن (۱) فقرہ

(الف) دیا جائے وہ قانون ہذا کی اغراض کیلئے

ان امور کی قطعی شہادت ہوگا جو اس میں درج

ہوں۔

(۳)۔ جب کوئی دستاویز تعلقدار کے

پاس حسب دفعہ ۳۶ ضمن (۲) بھیجی گئی ہو تو وہ

اس کے متعلق کارروائی متذکرہ دفعہ ہذا کرنے

کے بعد اس کو عہدہ دار ضبط کنندہ کے پاس

واپس بھیجے گا۔

دستاویزات جو سوراخاقت سے **دفعہ ۳۹**

بے ضابطہ اسٹامپ ہوں۔ جب کوئی دستاویز

قابل ادائیگی رسوم جو حسب ضابطہ اسٹامپ شدہ

نہ ہو اور ایسی دستاویز نہ ہو جس پر صرف

* ONE AND A HALF ANNAS OR ONE ANNA.]

کا رسوم واجب الادا ہو یا بل آف اسپینج

یا پرائمری نوٹ نہ ہو تعلقدار کے روبرو

*Substituted by Regulation No. XIV of 1359 F.

(Translation)

not duly stamped by accident, mistake or urgent necessity, he may, instead of proceeding under section 31 or section 38, recover such amount and proceed as specified in the next section.

40. (1) When the duty and penalty, if any, in respect of any instrument have been paid under section 33 or 38 or 39, the person admitting such instrument or the Taluqdar, as the case may be, shall certify by endorsement on the instrument

that the proper duty or, the proper duty and the penalty, as the case may be, have been recovered.

تانون اسٹامپ۔ نشان (۲) ۳۳ لاکھ
 کسی شخص کی جانب سے اس کی تکمیل یا تکمیل اول کی
 تاریخ سے ایک سال کے اندر پیش کیا جائے اور
 وہ شخص تعلقدار کی توجہ اس امر کی جانب مبذول
 کرے کہ وہ دستاویز حسب ضابطہ اسٹامپ شدہ
 نہیں ہے اور رسوم مناسب یا کمی رسوم مناسب
 کی ادائیگی پر آمادگی ظاہر کرے اور تعلقدار کو اس
 کا اطمینان ہو جائے کہ اس دستاویز کا حسب
 ضابطہ اسٹامپ شدہ نہ ہونا سورا تفاق یا غلطی
 یا کسی شدید ضرورت کی وجہ سے ہے تو وہ حسب
 دفعہ ۳۱ یا دفعہ ۳۸ کا روادائی کرتے کے بجائے
 رسم وصول کر کے اس طریقہ سے کارروائی کریگا
 جس کی دفعہ نامہ میں صراحت کی گئی ہے۔

ان دستاویزات پر عبارت ظہری (دفعہ ۳۸)۔ (۱)
 جن کے متعلق رسوم حسب دفعہ ۳۳
 جب کسی دستاویز
 کے متعلق حسب
 ۳۸ یا ۳۹ کی گئی ہو۔

دفعہ ۳۳ یا ۳۸ یا ۳۹ رسوم اور تاوان (اگر
 کوئی ہو) ادا کئے جا چکے ہوں تو وہ شخص جو ایسی
 دستاویز کو قبول کرے یا تعلقدار (جیسی کہ دستور
 ہے) اس دستاویز پر بعد از یہ عبارت ظہری اس

(Translation)

The endorsement shall set forth the following particulars:-

- the amount paid;
- person who has paid the amount;
- father's name and residence of the person paying them.

(2) Every instrument so endorsed shall thereupon be admissible in evidence, and may be registered and acted upon and authenticated as if it had been duly stamped, and shall be delivered on submitting an application in this behalf to the person from whose possession it was taken by the impounding officer or any other person whom he may authorise :

Provided that, -

- no instrument which has been admitted in evidence upon pay-

قانون اسٹامپ: نشان (نہ)، اسٹامپ

امر کی تصدیق کرے گا کہ رسوم مناسب یا رسوم مناسب اور تاوان (جیسی کہ صورت ہومی و معمول کیا جا چکا ہے۔

عبارت ظہری میں مفصلہ ذیل امور کی تصریح

ہوگی :-

- (الف) - کس قدر رقم ادا کی گئی۔
- (ب) - رقم کس شخص نے ادا کی۔
- (ج) - ادا کنندہ کی ولدیت و سکونت۔

(۲) - ہر دستاویز جس پر اس طرح عبارت ظہری لکھی گئی ہو اس کے بعد قابل احوال شہادت ہوگی اور اس کی اسی طرح رجسٹری کی جاسکتی اور اس پر عمل کیا جاسکے گا اور اسکی تصدیق کی جاسکے گی کہ گویا وہ حسب ضابطہ اسٹامپ شدہ تھی اور اس بارے میں درخواست پیش ہونے پر وہ اُس شخص کے یا کسی اور شخص کے جس کو وہ مجاز کرے حوالہ کی جائے گی جس کے قبضہ سے عہدہ دار منبط کنندہ نے اس کو منبط کیا ہو۔

مگر شرط یہ ہے کہ

(الف) - کوئی دستاویز جو حسب

(Translation)

ment of duty and a penalty under section 33 shall be delivered before the expiration of one month from the date of such impounding or if the Taluqdar has certified that its further detention is necessary unless, the Taluqdar cancels such certificate;

(b) nothing in this section shall affect the last portion of the provisions of clause (b) of sub-section (1) or section 171 of the Hyderabad Code of Civil Procedure No. III of 1323 F.

41. The taking of proceedings or the payment of a penalty under this Chapter in respect of any instrument shall not bar the institution of any criminal proceeding against a person who has committed an offence mentioned in this Act in respect of such instrument:

Provided that when penalty has been paid in respect of any instrument

تاقون اسٹامپ - نشان (۲) اسلٹ (۲) کے بعد
 دفعہ ۳۳ رسوم اور تاوان کی ادائیگی کے بعد
 شہادت میں قبول کی گئی ہو وہ ضبط کی تاریخ سے
 ایک مہینہ گزرنے کے قبل حوالہ نہ کی جائے گی اور
 نہ اس صورت میں حوالہ کی جائے گی جب کہ تعلقدار
 نے اس امر کی تصدیق کی ہو کہ اس کو مزید مدت کیلئے
 تحویل میں رکھنا ضروری ہے جب تک کہ تعلقدار
 ایسی تصدیق کو منسوخ نہ کرے۔

(ب) - دفعہ ہذا کوئی مضمون احکام
 مندرجہ مجموعہ مضابطہ دیوانی سرکار عالی نشان (۲)
 اسلٹ کی دفعہ ۱۱۱ ضمن (۱) فقرہ (ب) کے باخ
 جزو پر نوثر نہ ہوگا۔

تاقون اسٹامپ کی خلاف ورزی کی | دفعہ ۴۱ کسی
 بابت استغاثہ - دستاویز کے متعلق

جب باب ہذا کسی کارروائی کا کیا جانا یا تاوان
 کا ادا کیا جانا اس کے مانع نہ ہو گا کہ اس شخص کے
 مقابلہ میں فوجداری کارروائی کی جائے جس نے
 اس دستاویز کے متعلق کسی جسم مندرجہ قانون ہذا
 کا ارتکاب کیا ہو۔

مگر شرط یہ ہے کہ جب کسی دستاویز کے متعلق

no prosecution shall be instituted in respect thereof unless the Inspector General of Stamps is of the opinion that the offence was committed with an intention of evading payment of the proper duty.

42. (1) When a person has paid any duty or penalty under section 33 or 35 or 38 or 39, and, by agreement or under the provisions of section 27 or any other enactment in force at the time, obligation of the providing stamp duty lies on some other person, the first mentioned person shall be entitled to recover from such other person the duty or penalty paid.

When persons paying duty or penalty may recover same from other persons.

(2) For the purposes of the action taken for the recovery of the amount under sub-section (1), the certificate granted in respect of such instrument under this Act shall be conclusive evidence of the matters contained therein.

تاوان ادا کیا جا چکا ہو تو اس کی بابت کوئی فیصلہ داری مقدمہ رجوع نہ کیا جائے گا۔ بجز اس کے کہ انسپکٹر جنرل اسٹامپ کی یہ رائے ہو کہ جرم کا ارتکاب رسوم مناسب کی ادائیگی سے گزیر کرنے کی نیت سے کیا گیا تھا۔

جو اشخاص رسوم یا تاوان ادا کریں (۲) دفعہ ۳۲۔ (۱) وہ اس کو دوسرے اشخاص سے جب کسی شخص نے کسی وصول کر لیں گے۔ کسی دستاویز کے

متعلق حسب دفعہ ۳۳ یا ۳۵ یا ۳۸ یا ۳۹ کوئی رسوم یا تاوان ادا کیا ہو اور قرار داد کی بنا پر یا دفعہ ۲۷ کے احکام یا کسی اور قانون نافذات کی رو سے رسوم اسٹامپ فراہم کرنے کی ذمہ داری کسی دوسرے شخص پر ہو تو شخص اول الذکر اس دوسرے شخص سے رسوم یا تاوان ادا شدہ وصول کرنے کا متحق ہو گا۔

(۲) ضمن (۱) کی رو سے رستم وصول کرنے کی جو کارروائی کی جائے اس کی اغراض کے لئے وہ صدقنامہ جو دستاویز مذکور کے متعلق حسب قانون ہذا عطا کیا گیا ہو وہ ان امور کی قطعی شہادت ہو گا جو اس میں درج ہوں۔

(3) Such amount shall be included in the costs of the suit or proceeding in which such instrument has been tendered in evidence and to which such persons are parties.

43. (1) Where any penalty is paid under Section 33 or 38, the Chief Controlling Stamp authority may, upon application in writing made within one year from the date of the payment, order the refund of such penalty in whole or in part.

Power of Chief Controlling Stamp authority to refund excess duty and penalty.

(2) Where, in the opinion of the Chief Controlling Stamp authority, stamp-duty in excess of that which is legally payable has been determined and paid under section 34 or 39, he may, upon application in writing made within three months of the date of its payment, order refund of the excess duty.

قانون اسٹامپ۔ نشان (۲۳) سیکشن

(۳)۔ ایسی رقم اس مقدمہ یا کارروائی کے خرچہ میں شریک کا جائیگی جس میں دستاویز مذکور بطور شہادت پیش کی گئی ہو۔ اور جس کے وہ اشخاص فریق ہوں۔

حاکم اعلیٰ انگریزی اسٹامپ کا اختیار (۲۳)۔
اختیار زائد رسوم اور تاوان کی واپسی کے متعلق۔
جب حسب دفعہ ۳۳ یا ۳۸ کوئی تاوان

ادا کیا گیا ہو تو تاریخ ادائیگی سے ایک سال کے اندر درخواست تحریری پیش ہونے پر حاکم اعلیٰ انگریزی اسٹامپ تاوان مذکور کی کلا یا جسز آد ایسی کا حکم دے سکے گا۔

(۲)۔ جب حاکم اعلیٰ انگریزی اسٹامپ کی رائے میں اس رسوم سے جو قانوناً قابل ادا تھی زائد رسوم حسب دفعہ ۳۴ یا ۳۹ مشخص اور ادا کی گئی ہو تو تاریخ ادائے تین مہینے کے اندر درخواست تحریری پیش ہونے پر وہ زائد رسوم کی واپسی کا حکم دے سکے گا۔

(Translation)

44. (1) If the instrument sent to the Taluqdar under sub-section (2) of section 36, is lost, destroyed or damaged in transit, there shall be no liability on the person sending the same for such loss, destruction or damage.

Non-liability for loss of instruments sent under section 37.

(2) When any instrument is about to be so sent, the person from whose possession it was taken may have a copy thereof made at his expense and get it authenticated by the impounding officer.

قانون اسٹامپ نشان دہاں لکھن

دستاویزات جو حسب دفعہ ۳۶ بھیجی اور قبضہ
گئی ہوں ان کے گم ہو جانے کی وجہ سے (۱)۔ اگر وہ
کوئی ذمہ داری نہ ہوگی۔
دستاویز جو

حسب دفعہ ۳۶ ضمن (۲) تعلقدار کے پاس بھیجی گئی
ہو آشنا و راہ میں گم یا تلف یا بے کار ہو جائے تو
اس طرح گم یا تلف یا بے کار ہونے کی وجہ سے
اس شخص پر کوئی ذمہ داری نہ ہوگی جس نے
اس کو بھیجا ہو۔

(۲)۔ جب کوئی دستاویز اس طرح
بھیجی جانے والی ہو تو وہ شخص جس کے قبضہ سے
وہ ضبط کی گئی ہو اپنے صرفہ سے اس دستاویز
کی نقل کر اگر اس عہدہ دار ضبط کنندہ کی تصدیق
کر سکتا ہے۔

*[45: When any bill of exchange or promissory note chargeable with the duty of one and a half annas or one anna is presented for payment un-stamped, the person to whom it is so presented may affix thereto the necessary

Power of payer to stamp bills and promissory notes received by him un-stamped.

adhesive stamp, and, upon cancelling the same in manner hereinbefore provided, may pay the sum payable upon such bill or note, and may charge the duty against the person who ought to have paid the same, or deduct it from the sum payable as aforesaid, and such bill or note shall, so far as respects the duty, be deemed good and valid ;

Provided that nothing herein contained shall relieve any person from any penalty or proceeding to which he may be liable in relation to such bill or note.]

46. All duties, penalties and other sums payable under this Chapter may be recovered by the Taluqdar by distress and sale of the movable property of the person on whom lies the liability of its payment or by the process in force under any law for the time being in force for the recovery of arrears of land revenue.]

Mode of recovery of duties and penalty.

روسوم اور تادان کی وصول کیا
کا طریقہ -
روسوم - تادانات

اور دیگر قوم جو حسب باب نہ اتابل ادائی
ہوں تعلقت دار اس شخص کی جائیداد منقولہ کی ترقی
اور نیلام سے وصول کر سکتا ہے جس پر ان
کی ادائیگی کی ذمہ داری ہو یا وہ ایسے حکم نامہ جاتا
کے ذریعہ سے وصول کی جا سکتی ہیں جو قانون
نافذ الوقت کی رو سے بقایا مانگناری کے
وصول کے لئے نافذ ہوں -

CHAPTER V.

ALLOWANCE FOR STAMPS IN
CERTAIN CASES.

47. Subject to such rules as may be made in the matter by the Government as to the nature of evidence to be produced, or the nature of enquiry to be made, the Taluqdar may, on application being made within the period fixed in section 48, and if he is satisfied as to the facts, make allowance for impressed stamp spoiled in the following cases:—

(a) when the stamp, before any instrument on any stamped paper is executed, is inadvertently and undesignedly spoiled, obliterated, or by error in writing or any other reason rendered unfit for the work for which it was intended;

(b) the stamp of the instrument which is written out wholly or in part,

پنجم باب

رعایت اسٹامپ کے بعض صورتوں میں -

خراب شدہ اسٹامپ کی رعایت دفعہ ۴۷ - رعایت
ان قواعد کے جو سرکاری

اس امر کے متعلق وضع کرے کہ کس قسم کی شہادت
پیش کرنی ہوگی اور کس قسم کی تحقیقات کی جائیگی
تعلقہ دار اُس مدت کے اندر درخواست

پیش ہونے پر جو دفعہ ۴۸ میں معین کی گئی ہے
اور واقعات کے متعلق مطمئن ہونے پر منقرض اسٹامپ

کی بابت رعایت کرے گا جبکہ وہ مفصلہ ذیل
صورتوں میں خراب ہوا ہو: -

(الف) - جب کسی اسٹامپ کے کاغذ پر
کوئی دستاویز لکھی گئی ہو لیکن اُس کی تکمیل کے قبل وہ
اسٹامپ سہواً اور بلا ارادہ خراب ہو گیا یا مٹ گیا
ہو یا غلطی تحریر یا کسی اور وجہ سے وہ اُس کام کے
لائق نہ رہا ہو جس کے لئے وہ مطلوب تھا۔

(ب) - اس میں دستاویز کا اسٹامپ جو

but which is not signed or executed by any party ;

(c) in the case of *[bills of exchange payable otherwise than on demand] or promissory note—

(1) the stamp of any *[such bill of exchange] signed by or on behalf of the drawer, as has not been accepted or made use of in any other manner or delivered to any person for any purpose other than by way of tender for acceptance :

Provided that the paper on which such stamp is impressed has not been so signed by any person for the purpose of acceptance of any bill of exchange †[to be afterwards written thereon :

(2) the stamp of any promissory note signed by or on behalf of the maker which has not been made use of in any manner or delivered to any person ;

*Substituted by Regulation No. XIV of 1359 F.

†Omitted by Regulation No. XIV of 1359 F.

قانون اسٹامپ - نشان (۴) ۱۳۳۱

کایا جزا لکھی گئی ہو لیکن جس پر کسی فریق نے دستخط نہ کیے ہوں یا جس کی کسی فریق نے تکمیل نہ کی ہو۔

*[bills of exchange payable otherwise than on demand.] - (ج)

یا پیرامیٹری نوٹ کی صورت میں -

(۱) - کسی

*[such bill of exchange.]

کا اسٹامپ جس پر نوٹس دہنے دستخط کئے ہوں یا اس کی جانب سے دستخط کئے گئے ہوں لیکن جو سکاٹا گیا ہو یا کسی اور طریقہ پر کام میں نہ لایا گیا ہو یا سوائے سکرائی کی غرض سے پیش کرنے کے وہ کسی شخص کے حوالہ نہ کیا گیا ہو۔

مگر شرط یہ ہے کہ اس کاغذ پر جس پر اسٹامپ منقش ہو کسی شخص کے دستخط سکرائی کی غرض سے اس طرح نہ ہوئے ہوں کہ اس پر آئندہ کوئی بل آتے کیسے لکھا جائے۔

(۲) - کسی پیرامیٹری نوٹ کا اسٹامپ جس پر

نوٹس دہنے دستخط کئے ہوں یا اس کی جانب سے دستخط کئے گئے ہوں جو کسی طریقہ پر استعمال نہ کیا گیا ہو یا کسی اور شخص کے حوالہ نہ کیا گیا ہو۔

*Substituted by Regulation No. XIV of 1359 F.

(3) the stamp used or intended to be used on any bill of exchange†[] * [or promissory note] signed by, or on behalf of, the drawer thereof but which, by any omission or error, has been spoiled or rendered useless although the same being a bill of exchange†[] may have been presented for acceptance or accepted or endorsed or being a * [promissory note] may have been delivered to the payee:

Provided that another completed and duly stamped bill of exchange†[] or promissory note is produced identical in every particular except in the correction of such omission, or with the spoiled promissory note †[] [or bill of exchange];

(d) the stamp used for an instrument executed by any party thereto which —

(۳)۔ اسٹامپ جو کسی ایسے بل آف ایکسچینج

[or promissory note.] پر استعمال کیا گیا ہو

یا استعمال کرنا مقصود ہو جس پر نوٹسندہ نے دستخط کئے

ہوں یا اُس کی جانب سے دستخط کئے گئے ہوں لیکن جو

کسی ترک یا غلطی کی وجہ سے خراب یا بیکار ہو گیا ہو

گودہ بل آف ایکسچینج [] * کی صورت میں سکرائی کے لئے

پیش کیا گیا ہو یا اُس پر عبارت سکرائی یا عبارت

ظہری لکھی گئی ہو [or promissory note] * کی

صورت میں وہ موسومہ کے حوالہ کیا گیا۔

مگر شرط یہ ہے کہ دوسرا مکمل اور حسبِ بطلہ

اسٹامپ شدہ بل آف ایکسچینج [] یا پرامیٹری نوٹ

پیش کیا جائے جو تفصیلی امور میں سوائے اُس ترک

یا غلطی کی اصلاح کے اُس خراب شدہ پرامیٹری

نوٹ [] یا بل آف ایکسچینج کے مطابق ہو۔

(ح)۔ اسٹامپ جو کسی ایسی دستاویز

کے لئے استعمال ہوا ہو جس کی تکمیل اُس دستاویز

کے کسی فریق نے کی ہو۔ اور

†Omitted by Regulation No. XIV of 1359 F.

*Substituted by Regulation No. XIV of 1359 F.

*

Amended by Regulation No. XIV of 1359 F.

(1) has been afterwards found to be absolutely void in law from the beginning;

(2) has been afterwards found unfit, by reason of any error or mistake, for the purpose for which it was originally executed;

(3) by reason of the death of any person by whom its execution is necessary without having executed the same, or of the refusal of any such person to execute the same, cannot be completed so as to gain the purpose for which it was intended;

(4) for want of the execution thereof by some material party, or by reason of his being unable to sign or refusal to sign the same, is in fact incomplete and insufficient for the purpose for which it was intended;

(5) by the reason that a person has refused to act under the same or to deliver the money in respect of which it was intended to be written, or has refused to accept the office intended to be thereby granted totally falls of the intended purpose;

قانون اسٹامپ۔ نشان (۴) ۲۳۱ ف

(۱)۔ جس دستاویز کے متعلق من بعد معلوم ہو کہ وہ ابتداء سے قطعاً قانون کی رو سے کالعدم تھی۔

(۲)۔ جس دستاویز کے متعلق من بعد معلوم ہو کہ وہ کسی سہو یا غلطی کی وجہ سے اس غرض کیلئے بیکار ہے جو ابتداء اُس کی تکمیل کی تھی۔

(۳)۔ جب کسی ایسے شخص کے بلائیں دستاویز فوت ہو جانے کی وجہ سے جس کی جانب سے اُس کی تکمیل ضروری ہو یا کسی ایسے شخص کے تکمیل سے انکار کرنے کی وجہ سے دستاویز کی تکمیل اس طرح نہ ہو سکتی ہو کہ اس سے وہ غرض حاصل ہو سکے جو مقصود تھی۔

(۴)۔ جب کوئی دستاویز کسی اہم فریق کی جانب سے عدم تکمیل کی وجہ سے یا اُس کے دستخط کرنے کے ناقابل ہو جانے کی وجہ سے یا دستخط کرنے سے انکار کرنے کی وجہ سے فی الواقع غرض مطلوبہ کے لئے نامکمل اور ناکافی ہو۔

(۵)۔ جب اُس دستاویز کی غرض اس وجہ سے کلاً فوت ہو جائے کہ کسی شخص نے اُس دستاویز کے موافق عمل کرنے سے انکار کیا یا اُس رسم کے

(Translation)

(6) becomes useless in consequence of the transaction intended to be thereby effected being effected by the parties by some other instrument on which a stamp of lesser value was not affixed ;

(7) is in value less than the duty payable and the transaction intended to be thereby effected has been effected by the parties by some other instrument on which a stamp of lesser value was not affixed.

(8) is inadvertently and undesignedly spoiled, and in lieu whereof the parties have executed another duly stamped instrument to gain the same purpose:

تایون اسٹامپ۔ نشان (۴) ۳۳۱ اف
حوالہ کرنے سے انکار کیا جس کی بابت وہ لکھی جانی
منقصود تھی یا اُس عہدہ کے تسلیم کرنے سے انکار کیا
جو اُس کی رو سے عطا کیا جانا مقصود تھا۔

(۶)۔ جب وہ دستاویز اس وجہ سے
بیکار ہو جائے کہ جو معاملہ اُس کی رو سے کرنا مقصود
تھا وہ فریقین نے کسی دوسری دستاویز کے ذریعہ
سے کر لیا ہے جس پر اُس سے کم مالیت کا اسٹامپ
ثبت نہیں کیا گیا ہے جو اُس دستاویز پر استعمال
کیا گیا تھا۔

(۷)۔ اُس دستاویز پر جو اسٹامپ استعمال
کیا گیا ہے وہ رسوم واجب سے کم مالیت کا ہے
اور اُس دستاویز کی رو سے جو معاملہ کرنا مقصود تھا
وہ فریقین نے کسی دوسری دستاویز کے ذریعہ
مکمل کر لیا ہے جس پر اس سے کم مالیت کا اسٹامپ
ثبت نہیں کیا گیا ہے جو اُس دستاویز پر استعمال
کیا گیا تھا۔

(۸)۔ وہ دستاویز سہواً اور بلا ارادہ خراب
ہو گئی ہو اور اُس کے بجائے فریقین نے دوسری
دستاویز اسی غرض کے حصول کے لئے صنایع

Provided that, in the case of an executed instrument, no legal proceeding has been commenced in which the instrument could have been given or offered in evidence, and that the instrument is handed over to be cancelled and rendered useless.

Explanation: the certificate of the Taluqdar under section 30 that the full duty payable in respect of an instrument has been paid shall be deemed to be an impressed stamp for the purposes of this section.

48. The application for relief under section 47 shall be made within the following periods:—
Application under section 47 when to be made.

(1) in the case specified in clause (d) of sub-clause (5), within two months of the date of the instrument;

(2) in the case of a stamped paper on which an instrument has not been

قانون اسٹامپ - نشان (۳) لکھنا
اسٹامپ تکمیل کر لی ہو۔

مگر شرط یہ ہے کہ تکمیل شدہ دستاویز کی صورت میں کوئی ایسی قانونی کارروائی شروع نہ ہوئی ہو جس میں دستاویز مذکور شہادت میں دی جاسکتی یا پیش کی جاسکتی ہو اور نیز یہ کہ دستاویز مذکور کمزاد و بیکار رکھے جانے کے لئے حوالہ کی جائے۔

تو ضمیمہ - حسب دفعہ ۳۰ تعلقہ دار کا صدقات
کہ کسی دستاویز کے متعلق کامل رسوم جو واجب الادا ہے ادا کی جائیگی ہے و نہ ہذا کی اغراض کے لئے منقش اسٹامپ مقصور ہوگا۔

دفعہ ۴۸
دفعہ ۴۷
دفعہ ۴۸ کی رو سے درخواست
کے لئے جو درخواست پیش ہو وہ میعاد مندرجہ ذیل کے اندر پیش کی جائے گی۔

دفعہ ۴۷ کی رو سے درخواست
کے لئے جو درخواست پیش ہو وہ میعاد مندرجہ ذیل کے اندر پیش کی جائے گی۔

(۱) - اس صورت میں جس کی ضمن (د)

نقرہ (۵) میں صراحت ہے۔ تاریخ دستاویز سے دو مہینے کے اندر۔

(۲) - اس کاغذ اسٹامپ کی صورت

(Translation)

executed by any party, within six months of the date the stamped paper is spoiled:

(3) in the case of the stamped paper on which an instrument has been executed by any party within six months of the date of the instrument or, if it is not dated, within six months of the date on which any person has first executed or alone executed the instrument:

Provided that,—

(a) when the spoiled instrument has been for sufficient reasons sent out of H.E.H. the Nizam's Dominions, the application may be made within six months of the date on which it is received back in H.E.H. the Nizam's Dominions.

(b) when, under unavoidable circumstances, an instrument for which another instrument has been substituted cannot be delivered to be cancelled or rendered useless within the aforesaid period, the application may be made within six months of the date of execution of the second instrument.

تالون اسٹامپ، نشان دم، ۱۳۳۱ ف

میں جس پر کسی فریق کی جانب سے دستاویز کی تکمیل نہ ہوئی ہو۔ کاغذ اسٹامپ کے خراب ہونے کی تاریخ سے چھ مہینے کے اندر۔

(۳)۔ اس کاغذ اسٹامپ کی صورت میں جس پر کسی فریق نے دستاویز کی تکمیل کی ہو، دستاویز کی تاریخ سے چھ مہینے کے اندر یا اگر اس پر تاریخ ثبت نہ کی گئی ہو تو اس تاریخ سے چھ مہینے کے اندر جس تاریخ کو کسی شخص نے اس دستاویز کی تکمیل اول یا تنہا تکمیل کی ہو۔

مگر شرط یہ ہے کہ

(الف)۔ جب خراب شدہ دستاویز

بہ وجوہ کافی بیرون ممالک محروسہ سرکار عالی بھیجی گئی ہو تو درخواست اس تاریخ سے چھ مہینے کے اندر پیش کی جاسکتی ہے جب وہ ممالک محروسہ سرکار عالی میں واپس وصول ہو۔

(ب)۔ جب حالات ناگزیر سے کوئی دستاویز

جس کے بجائے دوسری دستاویز قائم کی گئی ہو اس مدت ذکر کردہ مدت کے اندر تکرار اور بیکار کئے جانے کے لئے حوالہ نہ کی جاسکتی ہو تو درخواست دستاویز ثانی کی تکمیل کی تاریخ سے چھ مہینے کے اندر پیش کی

49. The Chief Controlling Stamp authority may, without limit of time, refund the value of any stamped paper actually paid after the commencement of this Act deducting one anna for each rupee or fraction of a rupee, if such stamped paper has ceased to be of use to the holder thereof, and he could not, for any sufficient reason apply for refund of its value within six months.

50. (a) When any person has inadvertently used, on an instrument on which duty is payable, a stamp of a description other than that prescribed by the rules made under this Act, or a stamp of greater value than was necessary, or has inadvertently used a stamp on an instrument on which duty is not payable; or

تاقون اسٹامپ۔ نشان (۴) اسٹامپ
جا سکتی ہے۔

و ایسی قیمت اسٹامپ بلا قیدتد۔ دفعہ ۴۹۔
حاکم اعلیٰ نگرانی صینڈ اسٹامپ کو اختیار ہوگا کہ
بلا قید مدت کسی کاغذ اسٹامپ کی قیمت بعد
نفاذ تاقون ہذا جو فی الواقع ادا کی گئی ہو بعد وضع ار
فی روپیہ یا کسر روپیہ واپس کرے جب کہ وہ کاغذ
اسٹامپ اُس کے قابض کے کام کا نہ رہا ہو اور پچھ
مہینے کی مدت کے اندر وہ کسی کافی وجہ سے اس
کی اس کی قیمت کی واپسی کی درخواست نہ کر سکا ہو۔

اس صورت میں رعایت جیٹاٹامپ | دفعہ ۵۰۔
بیجا طور پر استعمال ہوا ہو۔ (الف)۔ جب
کوئی شخص کسی دستاویز قابل ادائیگی رسوم پر اُس
قسم کے اسٹامپ کے بجائے جو قواعد نافذہ
حسب تاقون ہذا کی رو سے مقرر کیا گیا ہو سہواً
کسی دوسری قسم کا اسٹامپ استعمال کرے یا
اُس سے زائد مالیت کا اسٹامپ استعمال کرے
جو ضروری ہو یا سہواً ایسی دستاویز پر اسٹامپ
استعمال کرے جس پر رسوم واجب الادا
نہ ہو۔ یا۔

Stamp [1331 F: HYD. ACT IV
(Translation)

(b) when any stamp used for an instrument has been inadvertently rendered useless under section 13, owing to such instrument having been written in contravention of the provisions of section 11;

the Taluqdar may, on application made within six months of the date of the instrument, or if it is not dated, on application made within six months of the date on which any person has first or alone executed it or if duty is payable on the instrument, upon its being stamped with the proper duty, cancel and pay the value of the stamp so misused or rendered useless, as of a spoiled stamp.

51. When allowance is made for a spoiled or misused stamp, the Taluqdar may give in lieu thereof —
Allowance for spoiled or misused stamp.

تانون اسٹامپ ر نشان (۴۴)، ۱۳۳۱ء

(ب)۔ جب کوئی اسٹامپ جو کسی

دستاویز کے لئے استعمال کیا گیا ہو سہو آؤندہ ۱۳
کی رو سے اس وجہ سے بیکار کر دیا گیا ہو کہ
وہ دستاویز دندہ ۱۱ کے احکام کے خلاف
لکھی گئی ہے۔

تو تعلقدار دستاویز کی تاریخ سے
بچھ مہینے کے اندر درخواست پیش ہونے پر
یا اگر اُس میں تاریخ درج نہ ہو تو اس تاریخ سے
بچھ مہینے کے اندر درخواست پیش ہونے پر
جب کسی شخص نے اُس کی تکمیل اول یا تہنیکمیل کی ہو
اگر وہ دستاویز قابل ادائیگی رسوم ہو تو رسوم
مناسب ثبت ہونے پر اُس بجا استعمال شدہ
یا بیکار شدہ اسٹامپ کو ظمردا اور بیکار کر کے
اس کی قیمت اُسی طرح ادا کرے گا جس طرح
خراب شدہ اسٹامپ کی ادا کی جاتی ہے۔

خراب شدہ یا بجا استعمال شدہ اسٹامپ کے متعلق رعایت۔
وقوعاً۔ جب خراب شدہ یا بجا

استعمال شدہ اسٹامپ کے متعلق رعایت کی جائے
تو تعلقدار اُس کے بجائے

(a) other stamp of the same description and value; or

(b) if applied and the Taluqdar thinks fit, stamp of any other description of the same value; or

(c) at his discretion, the value thereof in money, after deducting one anna for each rupee or fraction thereof.

52. When any person is possessed of stamps which have not been spoiled or rendered unfit or useless for the purpose intended; but for which he has no immediate need, the Taluqdar shall pay to such person its value in money, deducting one anna for each rupee or fraction thereof when he delivers such stamps to be cancelled, and proves to the satisfaction of the Taluqdar that—

Allowance for stamps not required for use.

تانون اسٹامپ۔ نشان دوم، اسٹامپ
(الف)۔ اسی قسم اور مالیت کا دوسرا
اسٹامپ دے سکتا ہے۔ یا

(ب)۔ اگر درخواست کی جائے اور
تعلقدار مناسب خیال کرے تو کسی دوسری قسم
کا اسٹامپ اسی مالیت کا دے سکتا ہے۔ یا

(ج)۔ اپنی صوابدید کے موافق فی رُو
یا اس کی کسر کی بابت اروضع کرنے کے بعد
اس کی مالیت زر نقد میں ادا کر سکتا ہے۔

یہ اسٹامپ کے متعلق رعایت
جن کی استعمال کے لئے ضرورت
زر ہی ہو۔
اس ایسے اسٹامپ
فوق ۵۲۔
جب کسی شخص کے

ہوں جو خراب نہ ہوئے ہوں یا جس غرض کیلئے
وہ مقصود تھے اس غرض کے لئے وہ ناقابل
استعمال یا بے کار نہ ہوئے ہوں لیکن اس شخص کو
ان کی خوردی ضرورت نہ ہو تو تعلقدار فی رُو
یا اس کی کسر کی بابت اروضع کرنے کے بعد
شخص مذکور کو ان کی مالیت زر نقد میں ادا

(Translation)

(a) he had purchased such stamps with a bona fide intention to use them; and

(b) he has paid the full price thereof ; and

(c) they were purchased within the period of six months from the date on which they were so delivered :

Provided that, where the person is a licensed vendor of stamps, the Taluqdar may, if he thinks fit, make the repayment of the sum he has actually paid without any deduction in respect of such stamps.

53. When new debentures are issued in place of duly stamped debentures in the previous terms, the Taluqdar shall, upon application made by the person issuing such debentures within one month of the issue thereof, repay to him, in respect of the stamp the lesser of the two amounts

Allowance in case of renewal of certain debentures.

قانون اسٹامپ - نشان (م)، ۱۳۳۱ء

کرے گا جب کہ وہ ایسے اسٹامپ منسوخ کرنے کے لئے حوالہ کرے اور حسب اطمینان تعلقدار یہ ثابت کرے کہ

(الف) اُس نے ایسے اسٹامپ نیک نیتی سے استعمال کرنے کی غرض سے خریدے تھے۔ اور

(ب)۔ اُس نے اُن کی کامل قیمت ادا کر دی ہے۔ اور

(ج)۔ وہ اس طرح حوالہ کرنے کی تاریخ سے چھ مہینے کے اندر خریدے گئے تھے۔

مگر شرط یہ ہے کہ جب ایسا شخص لائسنس یافتہ اسٹامپ فروش ہو تو تعلقدار اگر مناسب خیال کرے ایسے اسٹامپ کی بابت بلا کسی دقت کے وہی رقم ادا کر سکتا ہے جو اُس نے فی الواقع ادا کی ہو۔

بعض ڈبچہ کی تجدید کی صورت میں دفعہ ۵۳۔ رعایت - جب حسب اطمینان

اسٹامپ شدہ ڈبچہ کے بجائے جدید ڈبچہ سابقہ شرائط پر جاری کئے جائیں تو اجرا کنندہ ڈبچہ کی جانب سے اُن کی اجرائی کے

(Translation)

applied on the original or on the new debenture :

Provided that the original debentures are produced before the Taluqdar, and cancelled by him in the manner prescribed by the Government.

Explanation :—A debenture for the purposes of this section shall be deemed to be issued in the previous terms notwithstanding the following changes made therein :—

(a) the issue of two or more debentures in place of one original debenture, their total amount being the same ;

(b) the issue of one debenture in place of two or more original debentures, its total amount being the same ;

(c) the substitution of the name of the present holder at the time of renewal for the name of the original holder ; and

(d) the alteration of the rate of interest, or the dates of payment thereof.

قانون اسٹامپ۔ نشان دم، ۱۳۳۱ء

ایک ہیڈ کے اندر درخواست پیش ہونے پر

تعلقہ دار اس کو اسٹامپ کی بابت وہ رقم واپس دے گا جو ان دونوں رقم میں سے کم ہو جو اسٹامپ کی بابت سابقہ ڈیبنچر پر یا

جدید ڈیبنچر پر استعمال کی گئی ہو۔

مگر شرط یہ ہے کہ سابقہ ڈیبنچر تعلقہ دار کے روڈ پر پیش کئے گئے ہوں اور اس نے ان کو حسب طریقہ مقررہ سرکار عالی منسوخ کیا ہو۔

توضیح۔ دفعہ مذکورہ کی اغراض کے لئے ڈیبنچر سابقہ شرائط پر جاری کیا گیا تصور ہوگا اگر اس میں مفصلہ

ذیل تبدیلیاں کی گئی ہوں :—

(الف)۔ ایک اصلی ڈیبنچر کے بجائے دو یا زیادہ ڈیبنچر کی اجراء کی جب کہ ان کی مجموعی رقم وہی ہو۔

(ب)۔ دو یا زیادہ اصلی ڈیبنچر کے بجائے ایک ڈیبنچر کی اجراء کی جب کہ اس کی مجموعی رقم وہی ہو۔

(ج)۔ تجدید کے وقت ابتدائی قابض کے بجائے قابض حال کا نام قائم کرنا۔ اور

(د)۔ سود کی شرح میں یا اس کی ادائیگی کی

تاریخوں میں تبدیلی۔

(Translation)

CHAPTER VI.

REFERENCE AND REVISION.

54. (1) The powers exercisable by a Taluqdar under Chapters IV and V and under clause (a) of the first proviso to section 24, shall, in all cases, be subject to the control of the Chief Controlling Stamp authority.

(2) When any Taluqdar, acting under section 29, 38 or 39 has doubt as to the duty payable on any instrument, he may draw up a statement of the case, and send it, with his opinion, for the decision of the Chief Controlling Stamp authority.

(3) Such authority shall, after considering the case, send its decision to the Taluqdar who shall assess and recover the duty, if any, in conformity with such decision.

تازن اسٹامپ و نگرانی

حاکم اعلیٰ نگرانی صینہ اسٹامپ دفعہ ۵۴ - (۱)
کی نگرانی اور اس سے استعواب۔ جو اختیارات کہ تعلقدار

حسب باب چہارم و پچیسیم و دفعہ ۲۲ شرط اول
فقہ (الف) استعمال کرے وہ جملہ صورتوں میں حاکم
اعلیٰ نگرانی صینہ اسٹامپ کی نگرانی کے تابع ہونگے۔

(۲) جب کسی تعلقدار کو جو حسب دفعہ
۲۹ یا ۳۸ یا ۳۹ عمل کر رہا ہو اس رسوم کے متعلق
جو کسی دستاویز پر واجب الادا ہو شبہ ہو تو وہ
مقدمہ کی کیفیت لکھ کر اپنی رائے کے ساتھ
حاکم اعلیٰ نگرانی صینہ اسٹامپ کے فیصلہ کے لئے
بھیج سکے گا۔

(۳)۔ حاکم موصوف مقدمہ پر غور کرنے
کے بعد اپنا فیصلہ تعلقدار کے پاس بھیجے گا اور وہ
اس فیصلہ کے موافق رسوم (اگر کوئی ہو) منصف اور

(Translation)

55. (1) The Chief Controlling Stamp authority may state any case submitted to it under sub-section (2) of section 54, or otherwise and send it with its opinion for the decision of the High Court.

Chief Controlling Stamp authority may make reference to High Court.

(2) Such case shall be decided by at least three Judges of the High Court, and in case of difference of opinion the opinion of the majority shall prevail.

56. When the High Court is of opinion that the statement of the case received is not sufficient to determine the point in dispute, it may send the case to the Chief Controlling Stamp authority to make necessary addition to or alteration in its statement as the High Court may direct.

High Court may call for further statement of case.

توازن اسٹامپ - نشان (۴) ۱۳۳۱ ف

وصول کرے گا۔

حاکم اعلیٰ نگرانی صیغہ اسٹامپ دفعہ ۵۵ (۱)۔
مجلس عالیہ عدالت سے استصواب
حاکم اعلیٰ نگرانی صیغہ
اسٹامپ کو اختیار
کرے گا۔

ہوگا کہ کسی ایسے مقدمہ کی وجہ دفعہ ۵۴ میں
(۲) یا اور طور پر ان کے روبرو پیش ہوا ہو کیفیت
لکھ کر اپنی رائے کے ساتھ مجلس عالیہ عدالت
کے فیصلے کے لئے بھیجے۔

(۲)۔ ایسے مقدمہ کا تصفیہ مجلس عالیہ
عدالت کے کم از کم تین ارکان کریں گے۔ اور
بصورت اختلاف آراء غلبہ رائے کو ترجیح ہوگی
مجلس عالیہ عدالت متذکرہ دفعہ ۵۶۔ جب مجلس
مزید کیفیت طلب کرے گی۔ عالیہ عدالت کی رائے

ہو کہ مقدمہ کی کیفیت جو وصول ہوئی ہے وہ افزائی
کا تصفیہ کرنے کے لئے کافی نہیں ہے تو وہ مقدمہ
حاکم اعلیٰ نگرانی صیغہ اسٹامپ کے پاس اس غرض
سے واپس بھیج سکے گی کہ اس کی کیفیت میں حسب
ہدایت مجلس عالیہ عدالت ترمیمی اصلاحات یا
ترمیم کی جائے۔

Stamp [1331 F: HYD. ACT IV

(Translation)

57. (1) The High Court, at the time of the hearing of such case, shall decide the points in dispute and state in the judgement the grounds of decision.

(2) The High Court shall send a copy of its judgment to the Chief Controlling Stamp authority under the seal of the Court and signature of the Registrar ; and the Chief Controlling Stamp authority shall dispose of the case conformably to such judgment.

58. (1) When a Civil Court, other than the High Court, has doubt as to the duty to be paid under proviso (a) to section 33, it may draw up a statement of the case and send it with its own opinion for the decision of the High Court.

(2) The High Court shall decide such case as it were a case mentioned

تایڈن اسٹامپ - قانون (۲) اسٹامپ
مقدمہ کا فیصلہ کرنے میں غائبیہ اور دفعہ ۵۸ - (۱) - ایسے
مقدمہ کی سماعت کے وقت مجلس عالیہ عدالت
اور نرائی کا تصفیہ کرے گی اور فیصلے میں رائے
کے وجوہ درج کئے جائیں گے۔

(۲) مجلس عالیہ عدالت اپنے فیصلہ کی
نقل بدترت مہر عدالت و دستخط رجسٹرار حکم
اعلیٰ نگرانی صیفہ اسٹامپ کے پاس بھیجے گی اور
وہ اس مقدمہ کا تصفیہ اس فیصلے کے موافق
کرے گا۔

عدالتیں مقدمہ کی کیفیت
لکھ کر مجلس عالیہ عدالت
کے فیصلہ کے لئے بھیج
کیں گی۔
مجلس عالیہ عدالت
کے سوائے کسی عدالت
دیوانی کو اس رسوم کے

متعلق شبہ ہو جو حسب دفعہ ۳۴ شرط الف
ادا کی جانی چاہئے تو مقدمہ کی کیفیت لکھ کر
ح اپنی رائے کے مجلس عالیہ عدالت کے فیصلے
کے لئے بھیجے گی۔

(۲) مجلس عالیہ عدالت ایسے مقدمہ

(Translation)

in section 55, and send a copy of its judgement under the seal of the Court and the signature of the Registrar to the Chief Controlling Stamp authority and another copy to the Court making the reference which shall dispose of the case conformably to such judgment.

59. (1) When any authority of a Civil Court or a Revenue Department, or any Criminal Court in any proceeding taken under Chapter XI and XXXI of the Hyderabad Code of Criminal Procedure No.

IV of 1313 F., makes an order to admit any instrument in evidence on the ground that it is duly stamped, or that duty is not chargeable thereon or that duty and penalty have been paid under section 33 in respect thereof, the authority or the Appellate Court may, of its own motion or on the application of the Inspector General of Stamps, take such order into consideration.

Revision of certain decisions regarding sufficiency of stamps.

ماڈن اسٹامپ - نشان دہی اسٹامپ
کا تصفیہ اسی طرح کرے گی جس طرح مقدمہ متذکرہ
دفعہ ۵۵ کا کرتا ہے اور اسے فیصلے کی ایک
نقلی حاکم اعلیٰ نگرانی میں اسٹامپ کے پاس اور
دوسری نقل عدالت استعواب کنندہ کے پاس
بدترت نمبر عدالت دو دستخط رجسٹرار بھیجے گی اور وہ
اس مقدمہ کا تصفیہ اس فیصلے کے موافق کرے گی۔

رسوم کافی ہونے کے متعلق فیصلہ دینا (دفعہ ۵۹) جب
کسی حاکم عدالت کی لیٹن مسزٹوں میں نگرانی۔

دیوانی یا محکمہ مال نے یا کسی عدالت فوجداری
نے اس کا ردوائی میں جو حسب باب ۱۱ اور ۱۳ مجموعہ
ضابطہ فوجداری سرکار عالی نشان دہی

کی گئی ہو کسی دستاویز کو شہادت میں قبول کرنے کا
حکم اس بنا پر دیا ہو کہ وہ یا ضابطہ اسٹامپ شدہ

ہے۔ یا اس پر رسوم واجب الاخذہ نہیں ہے۔ یا
اس کی بابت رسوم اور تاوان حسب دفعہ ۳۳ ادا

کیا گیا ہے تو حاکم یا عدالت مراجعہ خود اپنی تحریک
پر یا انسپیکٹر جنرل اسٹامپ کی درخواست پر اس
حکم پر لحاظ کرے گی۔

(2) If such authority or Court, after such consideration, is of opinion that such instrument should not be admitted in evidence unless the duty and penalty are paid therefor under section 33 or unless a duty and penalty higher than those already paid are paid, it may record a declaration accordingly and determine the amount of duty with which such instrument is chargeable and may require the person in whose possession or power such instrument is, to produce the same, and may impound the same when produced.

(3) When any declaration has been recorded under sub-section (2), the authority or the Court recording the same shall send a copy thereof to the Inspector General of Stamps, and, where the instrument to which the declaration relates has been impounded or is otherwise in its possession, shall also send to the Inspector General of Stamps such instrument.

(۲) اگر اس طرح لحاظ کرنے کے بعد
حاکم یا عدالت مذکور کی یہ رائے ہو کہ دستاویز
مذکور کو اس وقت تک شہادت میں قبول نہ
کیا جانا چاہئے جب تک کہ اس کے متعلق رسوم اور
تاوان حسب دفعہ (۳۳) ادا نہ کئے جائیں یا جب
تک اس کے متعلق اس سے زائد رسوم اور تاوان
نہ ادا کئے جائیں۔ جو ادا کئے جا چکے ہیں تو وہ اس
کے لحاظ سے کیفیت لکھ کر اس امر کا تعین کرے گا
کہ اس دستاویز پر کس قدر رسوم واجب الاخذ
ہے۔ اور جس شخص کے قبضہ یا اختیار میں وہ دستاویز
ہو اس کو حکم دے سکے گا کہ وہ پیش کیا جائے اور
جب وہ پیش ہو جائے تو اس کو ضبط کر سکے گا۔

(۳) جب حسب ضمیمہ (۲) کوئی کیفیت لکھی
جائے تو حاکم یا عدالت تحریر کنندہ کیفیت اس
کی ایک نقل انسپکٹر جنرل اسٹامپ کے پاس بھیجے گا۔
اور جب وہ دستاویز جس سے اس کیفیت کا تعلق
ہو ضبط کی جا چکا ہو یا اور طور پر اس کے قبضہ میں ہو تو
وہ دستاویز بھی انسپکٹر جنرل اسٹامپ کے پاس
بھیجے گا۔

(Translation)

(4) The Inspector General of Stamps may, on receiving it, notwithstanding the order made for admitting such instrument in evidence, or the certificate granted under section 40 or 41, take criminal proceedings against the person who, in his opinion, has committed an offence against the law relating to stamps in respect of such instrument :

Provided that,—

(a) such prosecution shall not be instituted where the amount (including duty and penalty) which, according to the determination of such authority or Court, was payable in respect of the instrument under section 33, is paid to the Inspector General of Stamps, unless he is of the opinion that the offence was committed with an intention of evading payment of the proper duty;

(b) except for the purposes of

تائون اسٹامپ - نشان (م) ۳۳۱

(م) اُس کے وصول ہونے پر انسپیکٹر جنرل اسٹامپ باوجود اُس حکم کے جو اُس دستاویز کو شہادت میں قبول کرنے کے متعلق صادر ہوا ہو یا باوجود اُس صداقت نامہ کے جو حسب دفعہ ۳۳ یا ۴۱ عطا کیا گیا ہو اُس شخص کے مقابلہ میں فوجداری کارروائی کر سکے گا جس نے اُس کی رائے میں قانون اسٹامپ کے خلاف کسی جرم کا ارتکاب اُس دستاویز کے متعلق کیا ہو۔

مگر شرط یہ ہے کہ

(الف)۔ ایسا استغاثہ رجوع نہ کیا جائے گا جب کہ وہ رقم (بشمول رسوم اور تادان کے) جو حاکم یا عدالت مذکور کے تصفیہ کے موافق اُس دستاویز کے متعلق حسب دفعہ ۳۳ واجب الادا ہوا انسپیکٹر جنرل اسٹامپ کو ادا کر دی جائے ہو۔ اُس کے کہ اُس کی رائے ہو کہ جرم کا ارتکاب رسوم مناسب کی ادائیگی سے گریز کرنے کی نیت سے کیا گیا تھا۔

(ب)۔ ایسے استغاثہ کی اغراض کے سوا

such prosecution, the declaration recorded under this section shall not affect the validity of the order under which any instrument was admitted in evidence nor it shall affect the certificate granted under section 40.

CHAPTER VII.

Offences and Procedure.

60. (1) Any person —

- (a) executing, endorsing or transferring or signing otherwise than as a witness, or presenting for acceptance or payment, or accepting payment or receiving money of or in any manner negotiating, any *[bill of exchange payable otherwise than on demand] or promissory note without the same being duly stamped; or

Penalty for executing instruments not stamped.

تین اسٹامپ یا تین دن، اسٹامپ
وہ کیفیت جو حسب دفعہ ہذا لکھی گئی ہو کسی طرح
اس حکم کے جواز پر موثر نہ ہوگی جس کی رو سے
کسی دستاویز کو شہادت میں قبول کیا گیا ہو اور نہ
اس صداقت نامہ پر موثر ہوگی جو حسب دفعہ
۴۰ دیا گیا ہو۔

بائے مستم
جرائم اور مخالفہ کارروائی۔

غیر اسٹامپ شدہ دستاویزات و فنڈس۔ (۱)
کی تکمیل کے بابت سزا۔
کوئی شخص جو

*[bill of exchange payable otherwise than on demand]

(الف)

یا پرامیٹری نوٹ کی جیب کہ وہ با مخالفہ اسٹامپ
شدہ نہ ہو تکمیل کرے یا اس پر عمارت ظہری لکھے
یا اس کو منتقل کرے یا اس پر سوائے گواہ کے اور
طور پر دستخط کرے یا اس کو سکرائی یا ادائیگی کے
لئے پیش کرے یا اس کی ادائیگی قبول کرے یا اس
کی بابت رقم وصول کرے یا اور طور پر بیج و سفاری
کرے۔ یا

*Substituted by Regulation No. XIV of 1359 F.

*Substituted by Regulation No. XIV of 1359 F.

1331 F : HYD. ACT IV] Stamp
(Translation)

(b) executing or signing otherwise than as a witness any other instrument chargeable with duty without the same being duly stamped ; * [or]

*[(c) voting or attempting to vote under any proxy not duly stamped;

shall be punished with fine which may extend to five hundred rupees;]

Provided that when any penalty in respect of any instrument has been paid under section 33 or 38 or 39, the amount which the offender has already paid in respect of penalty before imposition of fine shall be deducted from the fine imposed under this section in respect of the same instrument.

*Amended by Act No. VI of 1350 F.

ٹاؤن اسٹامپ - نشان (د) (۱۳۳۱ء)

(ب) کسی اور دستاویز کی جسیپر سوم واجب الاخذ ہو جبکہ وہ باضابطہ اسٹامپ شدہ نہ ہو تکمیل کرے یا اس پر سوائے گواہ کے اور طور پر دستخط کرے۔ [یا]

(ج) کسی ایسی دستاویز نیابت کی بنا پر جو حسب ضابطہ اسٹامپ شدہ نہ ہو رائے سے یا رائے دینے کا اقدام کرے اس کو جرمانے کی سزا دی جائے گی جس کی مقدار پانچ سو روپے تک ہو سکے گی۔ [یا]

مگر شرط یہ ہے کہ جب کسی دستاویز کے متعلق حسب دفعہ ۳۳ یا ۳۸ یا ۳۹ کوئی تاوان ادا کیا جا چکا ہو تو اسی دستاویز کے متعلق جو جرمانہ کی سزا حسب دفعہ ہذا دی جائے اس میں سے وہ رقم جمرائی جائے گی جو جرمانہ تاوان کی بابت

سے ترمیم جو حسب قانون (۱) (۱۳۵۰ء)

(2) When a share-warrant is issued not being duly stamped the company issuing the same, or the person who, at the time when it is issued, is the managing director or secretary or other principal officer of the company, shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees.

61. Any person required under section 10 to cancel and render useless an adhesive stamp does not cancel and render it useless in the manner mentioned in the said section, shall be punishable with fine which may extend to one hundred rupees.

62. Any person who, with intent to cause loss of stamps-revenue to the Government :
Penalty for not complying with provisions of section 25.

(a) executes any instrument in which the facts and circumstances re-

تازوں (سٹامپ - نشان (۴) ۱۳۳۱ء

سزائے جرمانہ کے قیل ادا کر چکا ہو۔

(۲)۔ جب کوئی دستاویز سند حصص جو

بامضابطہ اسٹامپ شدہ نہ ہو جاری کی جائے

تو کمپنی جو اسے جاری کرے یا وہ شخص جو اس کی

اجرائی کے وقت اس کمپنی کا مینجنگ ڈائریکٹر یا منجمنٹ

یا اور اعلیٰ افسر ہو وہ سزائے جرمانہ کا مستوجب

ہوگا جس کی مقدار صحت تک ہو سکے گی۔

اسٹامپ چسپائینڈی کو قلمزد اور دفعہ ۱۱۔ کوئی شخص

بے کار نہ کرنے کی بابت سزا۔ جس پر حسب دفعہ ۱۰ کسی

اسٹامپ چسپائینڈی کو قلمزد اور بے کار کرنا لازم

ہو حسب طریقہ متذکرہ دفعہ مذکور اس کو قلمزد اور

بے کار نہ کرے وہ سزائے جرمانہ کا مستوجب ہوگا

جس کی مقدار ایک سو روپیہ تک ہو سکے گی۔

دفعہ ۲۵ کے احکام کی تعمیل دفعہ ۲۲۔ کوئی شخص جو

نہ کرنے کی علت میں سزا۔ اس نیت سے کہ سٹامپ کا اعلیٰ

کی اسٹامپ کی آمدنی کو نقصان پہنچے

(الف) کسی ایسی دستاویز کی تکمیل کرے

(Translation)

ferred to in section 25 are not truly and fully set forth; or

(b) being employed or concerned in the preparation of any instrument, neglects or fails to set forth all such facts and circumstances; fully and truly; or

(c) does any other act calculated to deprive the Government of any duty or penalty payable under this Act;

shall be punished with fine which may extend to one thousand rupees.

63. Any person who,—

(a) being required under section 28 to give a receipt, refuses or neglects to give the same; or to evade duty on receipt:

تساؤن اسٹامپ۔ نشان (۲۵) اسٹامپ

جس میں وہ واقعات اور حالات جن کا وٹسہ ۲۵ میں ذکر ہے بلا کم و کاست اور صحیح صحیح درج

نہ ہوں۔ یا

(ب)۔ کسی ایسی دستاویز کی تیاری کے لئے مقرر کیا گیا ہو یا اس سے تعلق رکھتے ہو اور ان کل واقعات اور حالات کو صحیح صحیح اور بلا کم و کاست درج کرنے میں غفلت یا قصور کرے۔

(ج)۔ کوئی اور فعل کرے جس کی یہ غایت

ہو کہ سرکار عالی کسی رسوم یا تاوان سے جو حسب قانون ہذا واجب الوصول ہو محروم ہو جائے۔

اُس کو جرمانہ کی سزا دی جائے گی جس

کی مقدار ایک ہزار روپیہ تک ہو سکے گی۔

دفعہ ۳۱۔ کوئی شخص

رسید دینے سے انکار کرنے یا

(الف) جس پر حسب

رسید سے رسوم بچانے کی تدابیر

دفعہ ۲۸ رسید دینا

کرنے کی بابت سزا۔

لازم ہو اُس کے دینے سے انکار یا غفلت کرے۔ یا

(Translation)

(b) with intent to deprive the Government of duty, upon a payment of money or a delivery of property exceeding twenty rupees, gives a receipt for an amount or value not exceeding twenty rupees, or separates or divides the money or property paid or delivered;

shall be punishable with fine which may extend to one hundred rupees.

64. Any person who,—

Penalty when bill is post dated or other devices are adopted to cause loss of stamp to Government.

(a) with intent to deprive the Government of duty, executes any bill of exchange or promissory note, bearing instead of actual date of execution any subsequent date; or

(b) knowing that such bill or note has been post-dated, endorses, transfers or accepts it or pays or receives amount thereof or in any manner negotiates the same; or

قانون اسٹامپ۔ نشان (۴) اسٹامپ

(ب)۔ جو سرکار عالی کو رسوم سے محروم

کرنے کی نیت سے عہدہ روپیہ سے زائد

رقم کی ادائیگی کے وقت یا عہدہ سے زائد مال کی

حوالگی کے وقت ایسی رسیدہ جس کی رسم

یا مالیت عہدہ سے زائد نہ ہو یا رقم ادا شدہ

یا جائیداد حوالہ شدہ کو علیحدہ اور تفریق کرے۔

وہ جرمانہ کا مستوجب ہو گا جس کی مقدار

ایک سو روپیہ تک ہو سکے گی۔

منزاجب سرکار عالی کو اسٹامپ کا

نقصان پہنچانے کے لئے بل میں

تاریخ مابعد لکھی جائے یا اور تداریر

احتمال کی جائیں۔

کرنے کی نیت سے کوئی بل آف کسپیج یا پرائیمری

نوٹ تکمیل کرے جس میں اصل تاریخ تکمیل کے بجائے

کوئی تاریخ مابعد درج ہو۔ یا

(ب)۔ یہ جان کر کہ ایسے بل یا نوٹ

میں تاریخ مابعد درج کی گئی ہے اس پر عبارت

ظہری لکھے یا اس کو منتقل کرے یا اس کو سرکار

(Translation)

(c) with the like intent practises or is concerned in any act, device or contrivance not specially provided for in this Act or any other law for the time being in force ;

shall be punished with fine which may extend to one thousand rupees.

65. (a) Any person appointed to sell stamps who violates the rules made under section 70;
Penalty for breach of rules relating to vendor of stamps.

(b) any person not so appointed, who sells or keeps for sale a stamp other than a *[one anna or half an anna] adhesive stamp;

shall be punished with fine which may extend to five hundred rupees.

تانون اسٹامپ - نشان (۴) اسٹامپ
یا اس کی قسم ادا یا وصول کرے یا اور طور پر
اس کی بیع و شری کرے - یا

(ج) - وہی نیت رکھے کہ کوئی ایسا
فعل یا تدبیر یا چالاکی جس کی نسبت کوئی خاص
حکم اس قانون میں یا کسی اور قانون یا ذوالوقت
میں نہ عمل میں لائے یا اس سے واسطہ رکھے -

اس کو جرمانہ کی سزا دی جائے گی جس کی
مقدار ایک ہزار روپیہ تک ہو سکے گی -

توا متعلق اسٹامپ فروش کی دفعہ ۶۵
غلا درزی کی بابت سزا - (الف) - کوئی شخص

جو اسٹامپ فروخت کرنے کے لئے مقرر کیا گیا
ہو اور ان قواعد کی خلاف ورزی کرے جو
حسب دفعہ ۶۵ مرتب کئے گئے ہوں -

(ب) - کوئی شخص جو اس طرح مقرر
one anna or half an anna

نہ کیا گیا ہو سوائے اسٹامپ چسپائی
قیمتی] کے کوئی

*Substituted by Regulation No. XIV of 1359 F.

*Substituted by Regulation No. XIV of 1359 F.

(Translation)

66. No prosecution in respect of any offence mentioned in this Act shall be instituted without the sanction of the Chief Controlling Stamp authority and the said authority may even after the institution of the prosecution, compound such offence on such terms as it thinks fit.

Permission to institute prosecution.

Magistrate who shall have jurisdiction.

67. No Magistrate whose powers are less than those of a Magistrate of the first class, shall try any offence mentioned in this Act.

68. Every offence mentioned in this Act shall be tried by a Court in whose local limits of jurisdiction the offence is committed or the instrument is found.

Place of trial.

قانون اسٹامپ - نشان (۳۳) لکھنؤ
رکھے اس کو جرمانہ کی سزا دی جائے گی جس
کی مقدار پانچ سو روپیہ تک ہو سکے گی۔

اجازت اور جارج نالٹس - دفعہ ۶۶ - بلا منظور
حاکم اعلیٰ نگرانی صیفہ اسٹامپ کسی جرم مندرجہ
قانون ہذا کی بابت کوئی استغاثہ رجوع نہ ہو سکے گا
اور مقدمہ رجوع ہونے کے بعد بھی حاکم مذکورہ کی
شرائط پر جو وہ مناسب خیال کرے راضی نامہ
دے سکے گا۔

کس ناظم کو اختیارات حاصل ہونگے - دفعہ ۶۷ - کوئی
ناظم فوجداری جس کے اختیارات درجہ اول
سے کم ہوں کسی جرم مذکورہ قانون ہذا کی عمت
نہ کر سکے گا۔

مقام تحقیقات - دفعہ ۶۸ - ہر جرم متذکرہ
قانون ہذا کی تحقیقات اُس عدالت میں کی
جائے گی جس کی حدود ارضی کے اندر
جرم کا ارتکاب کیا گیا ہو یا جہاں
وہ دستاویز پائی جائے۔

CHAPTER VIII.

MISCELLANEOUS PROVISIONS.

69. Every Government officer having in his custody any register, book, record, paper, instrument or proceedings, the inspection whereof may tend to secure any duty, or to prove or lead to discovery of any fraud or omission in relation to duty, shall at all reasonable times, permit any person appointed for this work in writing by the Inspector General of Stamps to inspect such register, book, paper, instrument or proceeding; and such person may also take necessary notes and extract without payment of fee.

Power to make rules for sale of stamps.

70. The Government may make rules for the following:-

قانون اسٹامپ - نشان (۴) ۱۳۳۱ء

باب ششم

متفرق احکام

رجسٹرات وغیرہ کا معائنہ۔ دفعہ ۶۹۔ ہر عہدہ دار سرکاری جس کی تحویل میں کوئی رجسٹر کتاب - مثل کاغذ دستاویز یا کارروائی ہو جس کے معائنہ سے کسی رسوم کا تحفظ ہو سکتا ہو یا رسوم کے متعلق کوئی فریب یا فروگزاشت ثابت یا اس کا انکشاف ہو سکتا ہو وہ ہر شخص کو جسے انسپیکٹر جنرل اسٹامپ نے اس کام کے لئے بذریعہ تحریر مقرر کیا ہو۔

باوقاات مناسب ایسے رجسٹر کتاب - مثل کاغذ - دستاویز - یا کارروائی کے معائنہ کرنے کی اجازت دے گا اور ایسا شخص بلا ادائیگی فیس ضروری نوٹ یا اقباس بھی کر سکے گا۔

اسٹامپ فروخت کرنے کے لئے۔
قواعد مرتب کرنے کا اختیار۔
سرکاری قواعد مرتب کر سکے گی۔

Stamp [1331 F: HYD. ACT IV
(Translation)

(a) the supply and sale of stamps and stamped papers,

(b) the persons who can sell such stamps, and

(c) the duties of such persons and the remuneration which shall be paid to them:

Provided that the right to sell *[one anna or half anna] adhesive stamps shall not be restricted by such rules.

71. The Government may make rules generally for the purposes of this Act, and in such rules, specify the fines which may be imposed in case of breach of rules, the amount whereof shall in no case exceed one hundred rupees.

72. Rules made under this Act shall be published in the Jarida which upon such publication shall be deemed to be part of the Act.

*Substituted by Regulation No. XIV of 1359 F.

قانون اسٹامپ۔ نشان (۴) اسٹامپ

(الف)۔ اسٹامپ اور کاغذات اسٹامپ کی

بیم رسانی اور فروخت کے لئے۔

(ب)۔ اشخاص جو ایسے اسٹامپ

فروخت کر سکیں گے۔ اور

(ج)۔ ایسے اشخاص کی فرائض اور

معاوضہ جو ان کو دیا جائے گا۔

مگر شرط یہ ہے کہ ان قواعد کی رو سے

چھپائی اسٹامپ قیمت [one anna or half anna]

فروخت کرنے کے حق کو محدود نہ کیا جائے گا۔

قانون کی اغراض کے لئے بالعموم | دفعہ ۱۷۱۔
قواعد وضع کرنے کا اختیار۔ | بالعموم قانون نڈا

کی اغراض کے لئے قواعد مرتب کر سکے گی اور

ایسے قواعد میں اس جسرمانہ کی بھی صراحت کر سکی

جو قواعد کے خلاف ورزی کی صورت میں عائد

کیا جاسکے گا اور جس کی مقدار کسی صورت میں ایک

روپیہ سے زائد نہ ہوگی۔

قواعد کی اشاعت۔ | دفعہ ۱۷۲۔ قواعد جو

حسب قانون نڈا مرتب کئے جائیں وہ جریدہ

*Substituted by Regulation No. XIV of 1359 F.

(Translation)

73. Nothing contained in this Act shall affect the duties payable under any enactment relating to court fees for the time being in force.

This Act not to affect enactment relating to court fees.

*[74. Omitted].

قانون اسٹامپ - نشان (۴) ۱۳۳۱ھ

میں شائع کئے جائیں گے اور بعد اشاعت جریدہ
جنرل قانون منظور ہوں گے۔

یہ قانون قانون رسوم عدالت پر دفعہ ۳۲۰ قانون
موثر نہ ہوگا۔

ان رسوم پر موثر نہ ہوگا جو کسی قانون رسوم عدالت
نافذ الوقت کی رو سے واجب الادا ہوں۔

اسٹامپ جو جاگیرات میں دفعہ ۳۲۰
استعمال ہوگا۔ (۱) - [حذف]

* Omitted by Regulation No. LXVII of 1358 F.

*[SCHEDULE.]

STAMP-DUTY ON INSTRUMENTS.

(See Section 3.)

Description of Instrument.	Proper Stamp-Duty
1. ACKNOWLEDGMENT of a debt exceeding twenty rupees in amount or value, written or signed by or on behalf of, a debtor in order to supply evidence of such debt in any book (other than a banker's passbook) or on a separate piece of paper, when such book or paper is left in the the creditor's possession : Provided that such acknowledgment does not contain any promise to pay the debt or any stipulation to pay interest or to deliver any goods or other property.	One and a half annas.
2. ADMINISTRATION-BOND, including a bond given under section 9 or section 10 of the Hyderabad Succession Certificate Act No. III of 1307 F.—	
(a) where the amount does not exceed Rs. 1,000,	Three-fourths of the duty payable on a bond (Article 10) for such amount.
(b) in any other case.	Fifteen rupees.
3. ADOPTION - DEED, that is to say, any instrument (other than a will) recording	Twenty-two rupees eight annas.

*Substituted by Regulation No. XIV of 1359 Fasli.

an adoption or conferring or purporting to confer an authority to adopt.

4. AFFIDAVIT, including an affirmation or declaration in the case of persons by law allowed to affirm or declare instead of swearing.

Three rupees.

EXEMPTIONS.

Affidavit or declaration in writing when made—

(1) for the purposes of the Hyderabad Army Act ;

(2) for the immediate purpose of being filed or used in any court or before the officer of any Court ; or

(3) for the sole purpose of enabling any person to receive any service pension or charitable allowance.

5. AGREEMENT OR MEMORANDUM OF AN AGREEMENT.—

(a) If relating to the sale of a bill of exchange ;

Six annas.

(b) If relating to the sale of a Government security or share in an incorporated company or other body corporate ;

Subject to a maximum of thirty rupees, three annas for every Rs. 10,000 or part thereof of the value of the security or share.

(c) If not otherwise provided for by this Act.

One rupee eight annas.

EXEMPTIONS.

Agreement or Memorandum of Agreement—

(i) relating to occupation of land to which Government is a party ;

(ii) relating to the sale of goods or merchandise, not being a note or memorandum chargeable under Article 30 ;

(iii) made in the form of tenders to the Hyderabad Government for or relating to any loan.

6. AGREEMENT RELATING TO DEPOSIT OF TITLE DEEDS OR PLEDGE, that is to say, any instrument evidencing any agreement relating to—

(i) the deposit of title-deeds or instruments constituting the title to any property ;

(ii) the pledge of movable property, where such deposit or pledge has been made by way of security for the repayment of money advanced, or agreed to be advanced, by way of loan, or an existing or a future debt :—

(a) if such loan or debt is repayable on demand or more than three months from the date of the instrument evidencing the agreement—

	If drawn singly			If drawn in set of two for each part of the set			If drawn in set of three for each part of the set		
(i) When the amount of the loan or debt does not exceed Rs. 200	Rs.	a.	p.	Rs.	a.	p.	Rs.	a.	p.
	0	9	0	0	6	0	0	3	0
(ii) When it exceed Rs. 200 but does not exceed Rs. 400	1	2	0	0	9	0	0	6	0
Do 400 do 600	1	11	0	0	15	0	0	9	0
Do 600 do 800	2	4	0	1	2	0	0	12	0
Do 800 do 1,000	2	13	0	1	8	0	0	15	0
Do 1,000 do 1,200	3	6	0	1	11	0	1	2	0
Do 1,200 do 1,600	4	8	0	2	4	0	1	8	0
Do 1,600 do 2,500	6	12	0	3	6	0	2	4	0
Do 2,500 do 5,000	13	8	0	6	12	0	4	8	0
Do 5,000 do 7,500	20	4	0	10	2	0	6	12	0
Do 7,500 do 10,000	27	0	0	13	8	0	9	0	0
Do 10,000 do 15,000	40	8	0	20	4	0	13	8	0
Do 15,000 do 20,000	54	0	0	27	0	0	18	0	0
Do 20,000 do 25,000	67	8	0	33	12	0	22	8	0
Do 25,000 do 30,000	81	0	0	40	8	0	27	0	0
and for every additional Rs. 10,000 or part thereof in excess of Rs. 30,000	27	0	0	13	8	0	9	0	0

(b) if such loan or debt is repayable not more than three months from the date of such instrument.

Half the duty payable on a loan or debt under clause (a) (i) or clause (a) (ii) for the amount secured. (Stamp duty of quarter anna shall be reckoned as half anna and three-quarter anna as one anna).

EXEMPTION.

Instrument of pledge of goods, if unattested.

7. ARTICLES OF ASSOCIATIONS OF A COMPANY.

One hundred rupees.

EXEMPTION.

Articles of any Association not formed for profit and registered under section 26 of the Hyderabad Companies Act No. IV of 1320 F., or section 28 of the Hyderabad Companies Act. No. XXV of 1357 F.

8. AWARD, that is to say, any decision in writing by an arbitrator or umpire, not being an award directing a partition, on a reference made otherwise than by an order of the Court in the course of a suit—

(a) where the amount or value of the property to which the award relates, as set forth in such award, does not exceed Rs. 1,000 ;

The same duty as a bond (Article 10) for such amount.

(b) if it exceeds Rs. 1,000 but does not exceed Rs. 5,000;

Twenty rupees.

(c) if it exceeds Rs. 5,000 for every additional Rs. 1,000 or part thereof in excess of Rs. 5,000.

One rupee subject to a maximum of one hundred rupees.

9. BILL OF EXCHANGE —

(a) where payable otherwise than on demand, but not more than one year after date or sight	If drawn singly	If drawn in set of two for each part of the set	If drawn in set of three for each part of the set
If the amount of the bill or note does not exceed Rs. 200 ..	Rs. 0 a. 3 p. 0	Rs. 0 a. 2 p. 0	Rs. 0 a. 1 p. 0
If it exceeds Rs. 200 & does not exceed 400	0 6 0	0 3 0	0 2 0
Do 400 do 600	0 9 0	0 5 0	0 3 0
Do 600 do 800	0 12 0	0 6 0	0 4 0
Do 800 do 1,000	0 15 0	0 8 0	0 5 0
Do 1,000 do 1,200	1 2 0	0 9 0	0 6 0
Do 1,200 do 1,600	1 8 0	0 12 0	0 8 0
Do 1,600 do 2,500	2 4 0	1 2 0	0 12 0
Do 2,500 do 5,000	4 8 0	2 4 0	1 8 0
Do 5,000 do 7,500	6 12 0	3 6 0	2 4 0
Do 7,500 do 10,000	9 0 0	4 8 0	3 0 0
Do 10,000 do 15,000	13 8 0	6 12 0	4 8 0
Do 15,000 do 20,000	18 0 0	9 0 0	6 0 0
Do 20,000 do 25,000	22 8 0	11 4 0	7 8 0
Do 25,000 do 30,000	27 0 0	13 8 0	9 0 0
and for every additional Rs. 10,000 or part thereof in excess of Rs. 30,000	9 0 0	4 8 0	3 0 0
(b) where payable at more than one year after date or sight.			

The same duty as a Bond (Article 10) for the same amount.

10. BOND not being otherwise provided for by this Act or by the Hyderabad Court-fees Act—

Where the amount or value secured does not exceed Rs. 10 ; Four annas.

where it exceeds	and does not exceed	
Rs. 10	Rs. 50	Eight annas.
Do 50	do 100	One rupee.
Do 100	do 200	Two rupees eight annas.
Do 200	do 300	Three rupees twelve annas.

where it exceeds	and does not exceed	
Do Rs. 300	do Rs. 400	Five rupees.
Do 400	do 500	Six rupees four annas.
Do 500	do 600	Nine rupees eight annas.
Do 600	do 700	Ten rupees eight annas.
Do 700	do 800	Twelve rupees.
Do 800	do 900	Thirteen rupees eight annas.
Do 900	do 1,000	Fifteen rupees.

and for every Rs. 500 or part thereof in excess of Rs. 1,000. Seven rupees eight annas.

EXEMPTION.

Bond, when executed by any person for the purpose of guaranteeing that the local income derived from private subscriptions to a charitable dispensary or school or any other object of public utility shall not be less than a specified sum per mensem.

11. CANCELLATION.— Fifteen rupees.
Instrument of (including any instrument by which any instrument previously executed is cancelled), if attested and not otherwise provided for by this Act.

12. CERTIFICATE OF SALE granted to the purchaser of any property sold by public auction by order of a Civil or Revenue Court—

(a) where the purchase-money does not exceed Rs. 10. Six annas.

(b) where the purchase-money exceeds Rs. 10 but does not exceed Rs. 25.

Twelve annas.

(c) in any other case.

The same duty as a conveyance (Article 15) for a consideration equal to the amount of the purchase-money only.

13. CERTIFICATE OR OTHER DOCUMENT evidencing the right or title of the holder thereof, or another person, either to any share or stock in or of any incorporated Company or other body-corporate or to become proprietor of shares or stock in or of any such company or body.

Three annas.

14. COMPOSITION DEED executed between a bankrupt or insolvent debtor and his creditors, whereby provision is made for the management of the estate of such bankrupt or the insolvent debtor.

Twenty-two rupees eight annas.

15. CONVEYANCE, not being a TRANSFER charged or exempted under Article 43—

Where the amount or value of the consideration for the conveyance does not exceed Rs.

50. One rupee eight annas.

Where it exceeds		
Rs. 50 but not does not exceed	100.	Three rupees.
do 100	do 200	Six rupees.
do 200	do 300	Nine rupees.
do 300	do 400	Twelve rupees.
do 400	do 500	Fifteen rupees.
do 500	do 600	Eighteen rupees.
do 600	do 700	Twenty-one rupees.
do 700	do 800	Twenty-four rupees.
do 800	do 900	Twenty-seven rupees.
do 900	do 1,000	Thirty rupees.
and for every Rs. 500 or part thereof in excess of Rs. 1,000.		Fifteen rupees.

EXEMPTION.

Assignment of copyright.

16. COPY OR EXTRACT certified to be a true copy or extract, by or by order of any Government Officer and not chargeable under the Hyderabad Court Fees Act—

(i) if the original was not chargeable with duty, or if it was chargeable with duty not exceeding two rupees. One rupee eight annas.

(ii) in any other case. Three rupees.

EXEMPTIONS.

(a) Copy of any paper which a Government officer is expressly required by law to make or furnish for record in any Government office or for any public purpose.

(b) Copy or extract from any register relating to births, deaths, endowments, marriages or divorces.

17. COUNTERPART OR DUPLICATE of any instrument chargeable, with duty in respect of which the proper duty has been paid —

(a) if the duty with which the original instrument is chargeable does not exceed three rupees.

The same duty as is payable on the original instrument.

(b) in any other case.

Three rupees.

EXEMPTION.

Counterpart of any lease granted to a cultivator when such lease is exempted from duty

18. DEBENTURE (whether mortgage debenture or not) being a marketable security transferable —

(a) by endorsement or by a separate instrument of transfer;

The same duty as a bond (Articles 10) for the same amount.

(b) by delivery

The same duty as a conveyance (Art. 15) for a consideration equal to the face amount of the debenture.

Explanation.—The term “Debenture” includes any inte-

rest coupons attached thereto, but the amount of such coupons shall not be included in estimating the duty.

EXEMPTION.

A debenture issued by an incorporated company or other body corporate in terms of a registered mortgage-deed, duly stamped in respect of the full amount of debentures to be issued thereunder, whereby the company or body borrowing makes over, in whole or in part, their property to trustees for the benefit of the debenture-holders : provided that the debentures so issued are expressed to be issued in terms of the said mortgage-deed.

19. DIVORCE OF DISSOLUTION OF MARRIAGE — instrument of, that is to say, any instrument by which any person effects the dissolution of his marriage.

Three rupees.

20. EXCHANGE OF PROPERTY—Instrument of.

The same duty as a conveyance (Art. 15) for a consideration equal to the value of the property of greatest value as set forth in such instrument.

21. FURTHER CHARGE-
Instrument of that is to say,
any instrument imposing a
further charge on mortgaged
property—

✓ (a) when the original
mortgage is one with posses-
sion :

The same duty as a conve-
yance (Art. 15) for a conside-
ration equal to the amount of
the further charge secured by
such instrument.

(b) when such mortgage
is on without possession :

(i) if at the time of execu-
tion of the instrument of fur-
ther charge possession of pro-
perty is given or agreed to be
given under such instrument :

The same duty as a conve-
yance (Art. 15) for a conside-
ration equal to the total
amount of the charge (includ-
ing the original mortgage and
further charge already made),
less the duty already paid on
such mortgage and further
charge.

(ii) if possession is not so
given.

The same duty as a Bond
(Art. 10) for the amount of the
further charge secured by such
instrument.

22. GIFT-Instrument of,
(not being a settlement, will or
Transfer).

The same duty as a conve-
yance (Art. 15) for a conside-
ration equal to the value of the
property as set forth in such
instrument.

23. INDEMNITY BOND.

The same duty as a Security
Bond (Art. 40) for the same
amount.

24. LEASE, including an
under lease-or sub-lease and
any agreement to let or sub-let:

(a) where by such lease
the rent is fixed and no
premium (Nazarana) is paid
or delivered—

(i) where the lease pur-
ports to be for a term of less
than one year :

The same duty as a Bond
(Art. 10) for the whole amount
payable or deliverable under
such lease.

(ii) where the lease pur-
ports to be for a term of not
less than one year but more
than 5 years ;

The same duty as a Bond
(Art. 10) for the amount or
value of the average annual
rent reserved.

(iii) where the lease pur-
ports to be for a term exceed-
ing 5 years and not exceeding
10 years :

The same duty as a conve-
yance (Art. 15) for a conside-
ration equal to the amount or
value of the average annual
rent reserved.

(iv) where the lease pur-
ports to be for a term exceed-
ing ten years but not
exceeding twenty years ;

The same duty as a conve-
yance (Art. 15) for a conside-
ration equal to twice the
amount or value of the average
annual rent reserved.

[v] where the lease pur-
ports to be for a term exceed-
ing twenty years, but exceed-
ing not thirty years ;

The same duty as a conve-
yance (Art. 15) for a considera-
tion equal to three times the
amount or value of the average
annual rent reserved.

(vi) where the lease pur-
ports to be for a term exceed-
ing thirty years, but not
exceeding one hundred years ;

The same duty as a conve-
yance (Art. 15) for a considera-
tion equal to four times the
amount or value of the average
annual rent reserved.

(vii) where the lease pur-
ports to be for a term exceed-
ing one hundred years or in
perpetuity ;

The same duty as a conve-
yance (Art. 15) for a considera-
tion equal to one-sixth of the
whole amount of rents which
would be paid or delivered in
respect of the first fifty years of
the lease.

(viii) where the lease does not purport to be for any definite term ;

The same duty as a conveyance (Art. 15) for a consideration equal to three times the amount or value of the average annual rent which would be paid or delivered for the first ten years if the lease continued so long.

(b) where the lease is granted for a premium (Nazarana) or fine (Peshkash) or for money advanced, and where no rent is reserved ;

The same duty as a conveyance (Art. 15) for a consideration equal to the amount or value of such premium or fine or advance, as set forth in the lease.

(c) where the lease is granted for a premium or fine or for money advanced in addition to rent reserved.

The same duty as a conveyance (Art. 15) for a consideration equal to the amount or value of such premium or fine or advance as set forth in the lease in addition to the duty which would have been payable on such lease, if no premium or fine or advance had been paid or delivered:

Provided that, in any case where an agreement to lease is stamped with the proper stamp required for a lease, and a lease in pursuance of such agreement is subsequently executed, the duty on such lease shall not exceed one rupee eight annas.

EXEMPTIONS.

(1) Lease executed in the case of a cultivator for the purposes of cultivation (including a lease of trees for the production of food or drink) without the payment or delivery of any fine or premium,

Stamp [1331 F : HYD. ACT IV
(Translation)

when a definite term is expressed and such term does not exceed one year, or when the average annual rent reserved does not exceed one hundred rupees,

(2) Kabuliyat (acceptance) of any patta granted to a cultivator.

Explanation—When a lessee undertakes to pay any recurring charge, such as Government revenue, the land-lord's share of cesses or the owner's share of Municipal rates or taxes, which is by law recoverable from the lessor, the amount so agreed to be paid by the lessee shall be deemed to be part of the rent.

25. LETTER OF ALLOTMENT OF SHARE.—Whereby shares in the capital of any company or proposed company or in any loan to be raised by any company or proposed company are allotted to any person.

Three annas.

26. LETTER OF CREDIT, that is to say, any instrument by which one person authorises another to give credit to the person in whose favour it is drawn.

Two annas.

27. MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF A COMPANY—

(a) if accompanied by Articles of Association under Section 37 of the Hyderabad Companies Act No. IV of 1320 F. or Section 17 of the Hyderabad Companies Act No. XXV of 1357 F;

Sixty rupees.

(b) if not so accompanied.

One hundred and sixty rupees.

EXEMPTION.

Memorandum of any Association not formed for profit and registered under Section 26 of the Hyderabad Companies Act No. IV of 1320 F. or Section 28 of the Hyderabad Companies Act No. XXV of 1357 Fasli.

28 MORTGAGE-DEED., not being an Agreement relating to deposit of title-deeds, or pledge (Art. 6) of Security Bond (Art. 40)—

(a) when possession of the property or any part or the property comprised in such deed is given or agreed to be given by the mortgager;

The same duty as a conveyance (Art. 15) for a consideration equal to the amount secured by such deed.

(b) when possession is not given or agreed to be given as aforesaid;

The same duty as a Bond (Art. 10) for the amount secured by such deed.

Explanation.— A mortgagor who gives to the mortgagee a

power of attorney to collect rents or a lease of the property mortgaged or part thereof is deemed to give possession within the meaning of this Article.

(c) when a collateral or auxiliary or additional or substituted security; or security by way of further security is given, where the principal security is duly stamped for every sum secured not exceeding Rs.1,000; and for every Rs. 1000 or part thereof secured in excess of Rs. 1,000.

One rupee eight annas.

One rupee eight annas.

*[EXEMPTIONS.

(1) Instruments executed by persons taking advances under the Hyderabad Land Improvement Loans Act, 1950, A.D., or the Hyderabad Agriculturists' Loans Act, 1950, A. D., or by their sureties as security for the payment of such advances.

(2) Letter of Hypothecation accompanying a bill of exchange.]

29. NOTARIAL ACT ,
that is to say, any instrument, endorsement, memorandum, attestation, certificate or entry made or signed by a Notary

Two rupees four annas.

Public in the execution of the duties of his office, or by any other person lawfully acting as a Notary Public.

30. NOTE OR MEMORANDUM sent by a Broker or Agent to his principal intimating the purchase or sale on account of such principal—

(a) of any goods exceeding in value twenty rupees;

Six annas.

(b) of any stock or Marketable security exceeding in value twenty rupees.

Subject to a maximum of thirty rupees four annas for every Rs. 10,000 or part thereof of the value of the stock or security.

31. PARTITION.—Instrument of.

The same duty as a Bond (Art. 10) for the amount of the value of the separated share or shares of the property.

Explanation.—The largest share remaining after the property is partitioned (or if there are two or more shares of equal value and not smaller than any of the other shares, than one of such equal shares) shall be deemed to be that from which the other shares are separated:

(a) when an instrument of partition containing an agreement to divide property in severalty is executed and a partition is effected in pursuance of such agreement, the duty chargeable upon the instrument effecting such partition shall be reduced by the amount of duty paid in respect of the first instrument but shall not be less than one rupee eight annas;

(b) where an order for effecting a partition passed by any Revenue Authority or any Civil Court, or an award by an arbitrator directing a partition, is stamped with the stamp required for an instrument of partition, and an instrument of partition in pursuance of such order or award is subsequently executed, the duty on such instrument shall not exceed one rupee eight annas.

32. PARTNERSHIP—

A.—Instrument of—

(a) where the capital of the partnership does not exceed Rs. 500; Ten rupees.

(b) in any other case. Forty rupees.

B.—Dissolution of Twenty rupees.

33. POLICY OF INSURANCE—

A—Fire-Insurance and other classes of Insurance, not elsewhere included in this article, covering goods, merchandise, personal effects, crops and other property against loss or damage;

(1) in respect of an original policy—

(i) when the sum insured does not exceed Rs. 5,000.

Eight annas.

(ii) in any other case.

One rupee.

(2) in respect of each receipt for any payment of a premium on any renewal of an original policy.

One-half of the duty payable in respect of the original policy in addition to the amount, if any, chargeable under Article 37.

B.—Accident and Sickness Insurance—

(1) against railway accident valid for a single journey only;

One anna.

EXEMPTION.

When issued to a passenger; travelling by the third class in any railway.

(2) in any other case for the maximum amount which may become payable in the case of any single accident or sickness where such amount does not exceed Rs. 1,000, and also where such amount exceeds Rs. 1,000 for every 1,000 or part thereof.

Two annas:

Provided that, in case of a policy of insurance against death by accident when the annual premium payable does not exceed Rs. 2-8-0 per Rs. 1,000, the duty on such instrument shall be one anna for every Rs. 1000, or part thereof of the maximum amount which may become payable under it.

C. Insurance by way of indemnity against liability to pay damages on account of accidents to workmen employed by or under the insurer or against liability to pay compensation under the Hyderabad Workmen's Compensation Act. No. VI of 1349 F., for every Rs. 100 or part thereof payable as premium.

One anna.

D. Life Insurance or other Insurance not specifically provided for, except such a re-Insurance as is described in Division E of this article.

If drawn singly. If drawn in duplicate for each part.

(i) for every sum insured not exceeding Rs. 250.

Two annas. One anna.

(ii) for every sum insured exceeding Rs. 250 but not exceeding Rs. 500.

Four annas. Two annas.

(iii) for every sum insured exceeding Rs. 500 but not exceeding Rs. 1,000 and also for every Rs. 1,000 or part thereof in excess of Rs. 1,000.

Six annas. Three annas.

E. Re-Insurance by an Insurance Company, which has granted a policy of the nature specified in Division A of this Article with another company, by way of indemnity of guarantee against the payment on the original insurance of a certain part of the sum insured thereby

One-quarter of the duty payable in respect of the original insurance but not less than one or more than one rupee.

GENERAL EXEMPTION.

Letter of cover or engagement to issue a policy of insurance:

Provided that, unless such letter or engagement bears the stamp prescribed by this Act for such policy, nothing shall be claimable there-under nor shall it be available for any purpose, except to compel the delivery of the policy therein mentioned.

34. POWER-OF-ATTORNEY, not being a PROXY chargeable under Art. 36—

(a) when executed for the sole purpose of procuring the registration of one or more documents in relation to a

Twelve annas.

single transation or for admitting execution of one or more such documents;

(b) when authorising one person or more to act in a single transaction other than the case mentioned in Clause (a);

(c) when authorising not more than five persons to act jointly and severally in more than one transaction or generally;

(d) when authorising more than five but not more than ten persons to act jointly and severally in more than one transaction or generally;

(e) when given for consideration and authorising the attorney to sell any immovable property;

(f) in any other case.

One rupee eight annas.

Eleven rupees four annas.

Twenty-two rupees eight annas.

The same duty as a conveyance (Art. 15) for the amount of the consideration.

Two rupees four annas for each person authorised.

Explanation I.—The term “registration” includes every operation incidental to registration under the Hyderabad Registration Act.

Explanation II—For the purposes of this Article more persons than one when belonging to the same firm shall be deemed to be one person.

35. PROMISSORY NOTE

(a) when payable on demand-

(i) when the amount or value does not exceed Rs. 250;

One anna.

(ii) when the amount or value exceeds Rs. 250 but does not exceed Rs. 1,000 ;

Two annas.

(iii) in any other case ;

Four annas.

(b) when payable otherwise than on demand.

The same duty as a Bill of Exchange (Art. 9) for the same amount payable not more than one year after date or sight.

36. PROXY empowering any person to vote at any one election of the members of a district or local board or of a body of municipal commissioners, or at any one meeting of (a) members of an incorporated company or other body corporate whose stock or funds is or are divided into shares and transferable, (b) a local authority, or (c) proprietors, members or contributors to the funds of any institution.

Two annas.

Stamp
(Transaltion)

[1331 F : HYD. ACT IV

تائون اسٹامپ نشان (۳۱) سلف

37. RECEIPT for any money or other property the amount or value of which exceeds twenty rupees.

One anna.

EXEMPTIONS.

Receipt—

(a) endorsed on or contained in any instrument duly stamped, or exempted under the proviso to section 3 (instruments executed on behalf of the Hyderabad Government) or any cheque or bill of exchange payable on demand acknowledging the receipt of the consideration money therein expressed or the receipt of any principal money, interest or annuity, or other periodical payment thereby secured ;

(b) for any payment of money without consideration ;

(c) for any payment of rent by a cultivator ;

(d) for payment of the amount of a service-pension ;

(e) given by any officer receiving money paid in respect of any Government demand or the demand of a Municipality or a Local Board;

(f) given for money or securities for money, deposited in the hands of any banker, to be accounted for:

Provided that the same is not expressed to be received of, or by the hands of and other than the person to whom the same is to be accounted for.

38. RECONVEYANCE OF MORTGAGED PROPERTY:

(a) if the consideration for which the property was mortgaged does not exceed Rs.1,000;

The same duty as a conveyance (Art. 15) for the amount of such consideration as set forth in the reconveyance.

(b) in any other case.

Thirty rupees.

39. RELEASE that is to say, any instrument whereby a person renounces a claim upon another person or against any specified property—

(a) if the amount or value of the claim does not exceed Rs. 1,000.

The same duty as a Bond (Art. 10) for such amount or value as is set forth in the release.

(b) in any other case,

Fifteen rupees.

40. SECURITY BOND OR MORTGAGE-DEED executed by way of security for the due execution of an office, or to account for money or other property received by virtue thereof or executed by a surety to secure the due performance of a contract—

(a) when the amount secured does not exceed Rs. 1,000.

The same duty as a Bond (Art. 10) for the amount secured.

(b) in any other case.

Fifteen rupees.

EXEMPTIONS.

Bond or other instrument, when executed—

(i) by any person for the purpose of guaranteeing that the local income derived from private subscriptions to a charitable hospital, school or any other object of public utility shall not be less than a specified sum per mensem ;

(ii) by officers of Government or their sureties to secure the due execution of an office or the due accounting for money or other property received by virtue thereof ;

*[(iii) by person taking advances under the Hyderabad Land Improvement Loans Act, 1950, A. D., or the Hyderabad Agriculturists' Loans Act, 1950, A.D., or by their sureties as security for the repayment of such advances.]

41. SETTLEMENT—

A.—Instrument of Settlement. (including a deed of dower).

The same duty as a Bond (Art. 10) for the amount or value of the property settled as set forth in such instrument:

Provided that when an agreement to settle is stamped with the stamp required for an instrument of settlement, and

*Added by Act No. III of 1950.

an instrument of settlement in pursuance of such agreement, is subsequently executed the duty on such instrument shall not exceed one rupee eight annas.

EXEMPTION.

The deed of power executed on the occasion of a marriage among Mohammadans:

B. Revocation of Settlement.

The same duty as a Bond (Art. 10) for the amount or value of the property concerned as set forth in the instrument of revocation but not exceeding Thirty rupees.

42. SURRENDER OF LEASE—

(a) When the duty with which the lease is chargeable does not exceed fifteen rupees;

(b) In any other case.

The same duty with which such lease is chargeable.

Fifteen rupees.

EXEMPTION.

Surrender of lease, when such lease is exempted from duty;

43. TRANSFER (whether with or without consideration)—

(a) of shares in an incorporated company or other body-corporate;

One-half of the duty payable on a conveyance (Art. 15) for a consideration equal to the value of the share.

(b) of debentures being marketable securities, whether the debenture is liable to duty or not;

One-half of the duty payable on a conveyance (Art. 15) for a consideration equal to the face amount of the debenture.

(c) of any interest secured by a bond, mortgage-deed or policy of insurance—

(i) if the duty on such bond, mortgage-deed or policy does not exceed fifteen rupees.

The same duty with which such bond, mortgage-deed or policy of insurance is chargeable.

(ii) in any other case.

Fifteen rupees.

(d) of any trust-property without consideration from one trustee to another trustee or from a trustee to a beneficiary.

Eleven rupees four annas or such smaller amount as may be chargeable under clauses (a) to (c) of this Article.

EXEMPTIONS.

Transfers by endorsement—

(a) of a bill of exchange, cheque or promissory note ;

(b) of a mercantile document of title to goods ;

(c) of a policy of insurance ,

(d) of securities of Governments of Hyderabad, India and Pakistan.

44. TRANSFER OF LEASE by way of assignment and not by way of under-lease.

The same duty as a conveyance (Art. 15) for a consideration equal to the amount of the consideration for the transfer.

EXEMPTION.

Transfer of any lease exempt from duty.

45. TRUST—

A.—Declaration of Trust concerning any property, when made by any writing not being a Will.

The same duty as a Bond (Art. 10) on the amount or value of the property concerned as set forth in the instrument but not exceeding Rs. 45.

B.—Revocation of Trust concerning any property when made by any writing not being a Will.

The same duty as a Bond (Art. 10) or the amount or value of the property concerned as set forth in the instrument but not exceeding Rs. 30.